

علامہ اقبال  
اور  
نزولِ مسیح

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی

مکتبہ بنیادِ اراک العلوم کراچی

# علاماتِ قیامت

اوسا

## نزولِ مسیح

نزولِ عیسیٰ کی ایک سو سولہ احادیث نبویہ کا نور مجموعہ اور بیشتر علاماتِ قیامت کی ایمان افروز تفصیلات

انتخابِ حدیث

حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کٹھنیری

ترتیب اور توجہ و تشریح

تالیف

مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی

مفتی اعظم پاکستان

صدر جامعہ دارالعلوم کراچی

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب

(سابق) مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۲

## ترتیب کتاب

- تالیف حصہ اول: مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب  
 انتخاب احادیث حصہ دوم: حجۃ الاسلام علامہ سید محمد نور شاہ کشمیری  
 ترتیب حصہ دوم: مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب  
 ترجمہ و تشریح حصہ دوم: مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی اساتذہ دین دارالعلوم کراچی  
 تالیف حصہ سوم: " " " " " "

طبع جدید — شوال ۱۴۲۳ھ

بہتمام — محمد قاسم

طباعت — زم زم پرنٹنگ پریس

ناشر — مکتبہ دارالعلوم کراچی

## ملنے کے پتے

- ☆ مکتبہ دارالعلوم کراچی  
 ☆ ادارہ المعارف اعظم دارالعلوم کراچی  
 ☆ ادارہ اسلامیات مومین چوک اردو بازار کراچی  
 ☆ بیت الکتب بالمقابل مدرسہ شرف المدارس گلشن اقبال  
 ☆ ادارہ اشاعت اردو بازار کراچی  
 ☆ ادارہ سلامت ۱۹۰ انارکلی لاہور

# فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	دوسرا پر طبع اول	۵		اپنی کتابوں میں روایت کیا	
۲	عرض مؤلف	۶		اور ان پر سکوت فرمایا۔	
	حصہ اول			(از حدیث ۳۱ تا ۴۵)	
۳	مسح موعود کی پہچان	۱۰	۹	آشمار صحابہ و تابعین (از حدیث	۹۹
۴	علامات مسیح کا اجمالی نقشہ اور ان			۷۴ تا ۱۰۰)	
	کا مقابلہ مرزا غلام احمد قادیانی کے	۱۸	۱۰	الخطط کی ایک حدیث مرفوعہ	۱۰۹
	حالات سے (بصورت جدول)			نتیجہ	۱۱۱
	حصہ دوم			مزید احادیث مرفوعہ (از حدیث	
۵	نزول مسیح کی احادیث متواترہ		۱۱	۱۰۲ تا ۱۰۸)	"
	والنقص بیچہا تو اتوفی نزول	۲۹	۱۲	مزید آشمار صحابہ و تابعین	۱۱۳
	المسیح کا اردو ترجمہ			(از حدیث ۱۰۹ تا ۱۱۷)	
	عرض مترجم	۳۱		حصہ سوم	
۶	وہ احادیث جن کو انہر حدیث نے	۳۵	۱۳	علامات قیامت پر ایک تحقیقی مقالہ	
	صحیح "یا حسن" قرار دیا ہے۔			قیامت اور علامات قیامت	۱۲۰
	(از حدیث ۱ تا ۴)		۱۴	علامات قیامت کی اہمیت	۱۲۲
۸	وہ احادیث جن کو انہر حدیث نے	۱۵	۱۵	ان علامات کی کیفیت	۱۲۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۵۵	نزول عیسیٰ علیہ السلام	۳۰	۱۲۳	علاماتِ قیامت کی احادیث میں تعارض کیوں نظر آتا ہے؟	۱۶
"	عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ	۳۱			
۱۵۷	مقامِ نزول، وقتِ نزول	۳۲	۱۲۸	علاماتِ قیامت کی تین قسمیں	۱۷
۱۵۸	اور امام مہدی	۳۳	۱۲۹	قسمِ اول (علاماتِ بعیدہ)	۱۸
	دجال سے جنگ		"	۱۲۹	فتنہ و تاتار
۱۵۹	قتل و جہاں اور مسلمانوں کی فتح	۳۴	۱۳۱	نارُ الجہاز	۲۰
۱۶۲	یا جوج ماجوج	۳۵	۱۳۷	قسم دوم (علاماتِ متوسطہ)	۲۱
۱۶۳	یا جوج ماجوج کی ہلاکت	۳۶	۱۳۹	قسم سوم (علاماتِ قریبہ)	۲۲
۱۶۵	عیسیٰ علیہ السلام کی برکات	۳۷	"	فہرستِ علامات کی خصوصیات	۲۳
۱۶۹	حضرت عیسیٰ کا کھاج اور اولاد	۳۸	۱۳۲	فہرستِ علاماتِ قیامت	۲۴
"	آپ کی وفات اور جانشین	۳۹			
۱۷۰	متفرق علاماتِ قیامت	۴۰	۱۳۳	دبترتیبِ زمانی (مع حوالہ)	احادیث
۱۷۱	دُھواں	۴۱			
"	آفتاب کا مغرب سے طلوع	۴۲	۱۳۴	امام مہدی	۲۵
"	دابۃ الارض	۴۳			
"	یمن کی آگ	۴۴	۱۳۵	خروجِ دجال سے پہلے کے واقعات	۲۶
"	مومنین کی موت اور	۴۵			
۱۷۲	قیامت	۴۵	۱۳۶	خروجِ دجال	۲۷
			۱۳۸	دجال کا حلیہ	۲۸
				فتنہ و دجال	۲۹

## دیباچہ طبع اول

یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے، بنیادی حصہ، حصہ دوم ہے جو والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے اپنے شیخ امام عصر حجة الاسلام علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی ہدایت کے مطابق تالیف فرمایا تھا اور عربی زبان میں ”التنسیخ بہاتواتر فی نزول المسیح“ کے نام سے پہلی بار دیوبند سے اور دوسری بار حلب (شام) سے شائع ہو چکا ہے اور اب والد ماجد مدظلہم کے حکم پر احقر نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور اس کے مختصر حواشی بھی اردو میں تحریر کئے ہیں۔

پہلا حصہ حصہ دوم ہی کی ایک خاص انداز پر تلخیص ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کا مقابلہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات سے کیا گیا ہے، یہ حضرت والد ماجد مدظلہم نے اردو ہی میں تالیف فرمایا تھا اور کئی بار ”مسح موعود کی پہچان“ کے نام سے الگ شائع ہو چکا ہے۔

تیسرا حصہ علامات قیامت کے بارے میں احقر نے تالیف کیا ہے اس میں وہ تمام علامات قیامت ایک خاص انداز پر مرتب کی گئی ہیں جو حصہ دوم کی احادیث میں آئی ہیں، نیز علامات قیامت کے بعض اہم پہلوؤں پر قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیقی بحث کی گئی ہے۔

اب تینوں حصے پہلی بار یک جا کتابی شکل میں ”علامات قیامت اور نزول مسیح“ کے نام سے شائع کئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نافع اور مقبول بنائے، آمین۔

ناچیز محمد رفیع عثمانی عقائد اللہ عنہ

خادم طلبہ دوار الافق دار العلوم کراچی ۱۳

۱۹ صفر ۱۳۹۳ھ

## عرض مؤلف

آج سے سینتالیس سال پہلے شعبان ۱۳۴۵ھ میں جب کہ احقر دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا تھا دارالعلوم کے صدر مدرس حجۃ الاسلام سیدی و استاذی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس اللہ سرہ نے نزول مسیح علیہ السلام کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرما کر ان کو کتابی شکل میں تدوین و تالیف کے لئے احقر کو مامور فرمایا تھا۔ حسب الحکم یہ کتاب تیار ہو کر اسی وقت بنام التصریح بما تو اتر فی نزول المسیح شائع ہو گئی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مجموعہ احادیث صرف کسی فرقہ کا رد نہیں بلکہ علامات قیامت کے متعلق احادیث معتبرہ کا اہم مجموعہ ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے پڑھنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے مگر حسب ارشاد استاذ المحترم اس کو عربی زبان میں لکھا گیا تھا تا کہ عراق و مصر وغیرہ میں جہاں قادیانیوں نے نزول مسیح علیہ السلام کے مسئلے میں فتنہ پھیلایا ہے اس کو پہنچایا جاسکے۔

اردو دان حضرات کے لئے احقر نے اس رسالہ کا خلاصہ بنام مسیح موعود کی پہچان لکھ کر شائع کیا۔ اس اردو رسالے میں حدیث سے ثابث شدہ مضمون اور علامات مسیح موعود کو مختصر عنوان کی صورت میں لکھ دیا گیا اور تفصیل کے لئے اُس حدیث کا حوالہ دے دیا گیا جو رسالہ التصریح میں اس مضمون سے متعلق آئی ہے۔ التصریح میں احادیث پر نمبر ڈال دیئے گئے تھے۔ مسیح موعود کی پہچان میں اُن نمبروں کا حوالہ لکھ دیا گیا۔

مگر یہ ظاہر ہے کہ التصریح کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے اس سے استفادہ صرف اہل علم ہی کر سکتے تھے۔ ضرورت تھی کہ التصریح کا اردو ترجمہ ضروری تشریح کے

ساتھ کر دیا جائے۔

گزر زمانے کے مشاغل و ذواہل نے اس کی فرصت نہ دی یہاں تک کہ یہ دونوں شائع شدہ رسالے بھی نایاب ہو گئے پھر ملک شام حلب کے ایک بڑے ماہر عالم شیخ عبدالفتاح ابوعدہ جو علامہ زاہد کوثری مصری کے خاص شاگرد اور علوم قرآن حدیث میں حق تعالیٰ نے ان کو خاص مہارت عطا فرمائی ہے ان سے ابتدائی ملاقات تو ۱۹۵۶ء میں موتمر عالم اسلامی کے اجلاس منعقدہ دمشق میں احقر کی حاضری کے وقت ہوئی تھی، وہ غالباً ۱۳۸۰ھ میں کراچی تشریف لائے اور رسالہ التصريح پر خاص حواشی اور تحقیق کے ساتھ دوبارہ اشاعت کا عزم ظاہر فرمایا ایک نسخہ کتاب کا جو میرے پاس تھا موصوف کو دے دیا موصوف نے اپنی مہارت اور کمال علمی سے ماشاء اللہ کتاب کا حسن چند در چند کر دیا اور بیروت سے ۱۳۸۵ھ میں بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی۔

اس کتاب کی تجدید نے پھر اس ارادے کی تجدید کر دی کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے رسالہ مسیح موعود کے ساتھ شائع کیا جائے اس لئے برخوردار عزیز مولوی محمد رفیع سلمہ مدرس دارالعلوم کراچی کو یہ کام سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر و عافیت میں ترقیات ظاہرہ و باطنہ عطا فرمادے کہ انھوں نے بڑے سلیقہ سے رسالہ التصريح کی تمام احادیث کا نہایت سلیس و صحیح ترجمہ اور اس کے ساتھ حواشی میں خاص خاص تشریحات بھی لکھ دیں۔

اور ایک کام اور کیا جو اپنی جگہ ایک مستقل خدمت ہے کہ علامات قیامت جو رسالہ التصريح میں منتشر طور سے آئی ہیں ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک فہرست کی صورت میں جمع کر دیا۔ جس سے یہ کتاب علامات قیامت کے اہم مباحث کا مرتب مجموعہ ہو گیا۔ اور اس رسالہ کے شروع میں علامات قیامت سے متعلق چند اہم مباحث نہایت محنت و تحقیق کے ساتھ درج کر دیں جن میں علامات قیامت کے مابین ظاہری تعارض کے شبہات کا ازالہ اور علامات قیامت کی تین



قسموں پر تقسیم علامات بعیدہ - متوسطہ اور قریبہ کی تفصیلات کے ضمن میں فتنہ تانار اور نار حجاز پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے جزاہ اللہ تعالیٰ نیر الجزاء و وفقہ لما یحب و یرضاه - اب زیر نظر کتاب تین مستحق سالوں کا مجموعہ ہو گئی - ایک مسیح موعود کی پہچان - و دسر التصریح کی احادیث کا ترجمہ اور شرح تیسرا علامات قیامت ترتیب و تحقیق کے ساتھ حق تعالیٰ مقبول و مفید بنادے و ہو المستعان و علیہ التکلان -

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر ۱۳۹۳ھ

# ۲ مسیح موعود کی پہچان

قرآن و حدیث کی روشنی میں علامات مسیح  
کا اجمالی نقشہ

تالیف

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد۔ آفتاب نبوت کے غروب کے بعد اسلامی دنیا پر ہزاروں مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، حوادث کی خطرناک آندھیاں چلیں، فتنوں کی بارشیں ہوئیں خانہ جنگیاں اور فرقہ بندیوں نے لگیں۔ خصوصاً ہجری تاریخ کے ایک ہزار سال پورے ہونے کے بعد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق گویا فتن کی لڑی ٹوٹ پڑی، جو دن آیا ایک نیا فتنہ لے کر آیا جو رات ہوئی ایک بھیانک ظلمت ساتھ لائی۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن قادیانی فتنہ نے جتنے صدر عالم السلام کو پہنچایا ہے اس کی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں پائی جاتی، اس فتنہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے لباس میں بدترین کفر کی تبلیغ کی اور اس مکر سے ہزاروں مسلمانوں کو کافر بنا دیا۔ نبوت، وحی، شریعت مستقلہ کے دعوے کئے اپنی وحی کو بالکل قرآن کے برابر بتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اکثر انبیاء علیہم السلام سے افضل کہا، بلکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری بلکہ آپ سے افضلیت کے دعوے کئے۔ آپ کے معجزات کل تین ہزار اور اپنے دس لاکھ بتلائے، انبیاء علیہم السلام کی توہین کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مغلطیات گالیاں دیں، بہت سی ضروریات دین اور قطعیات اسلامیہ کا انکار اور نصوص قرآن و حدیث کی تحریف کی۔ اپنے نبی ماننے والی ایک مٹھی جماعت کے سوا ساری امت محمدیہ اعلیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے گرد گرد ہا مسلمانوں کو کافر و جہنمی کہا۔

یہ مرزا صاحب کے وہ دعوے ہیں جن کا راگ ان کی اکثر تصانیف میں مکرر سر کر لایا گیا ہے۔ احقر نے ان کے اسی قسم کے سینتالیس دعوے خود ان کی تصانیف

سے نقل کر کے ان کی عبارتیں مع حوالہ صفحات ایک مختصر رسالہ (دعاویٰ مرزا) میں جمع کی ہیں  
الغرض مرزا صاحب کو یہ لمبے چوڑے دعوے دنیا کے سامنے پیش کرنے تھے  
لیکن انھوں نے دیکھا کہ ابھی تک مسلمان ایمان سے اتنے کورے نہیں ہوئے کہ ان  
کے ہر دعوے کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں اسی لئے اپنے دعویٰ اور عقائد کفریہ پر  
پردہ ڈالنے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشے، وفات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ  
اور حیات مسیح میں بحثیں اور جھگڑے بھی اسی مصلحت کے لئے ایجاد کئے گئے کہ لوگوں کی  
توجہ ادھر مصروف ہو جائے ورنہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات سے مرزا جی اور ان کے دعووں کا کوئی تعلق نہیں | کیونکہ کسی شخص کا مسیح موعود یا نبی یا ولی بننا کسی دوسرے کی موت و حیات سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا بلکہ ان سب باتوں کا معیار صرف یہ ہے کہ اگر اس کے ذاتی اخلاق و صفات عقائد و اعمال معاشرت و معاملات اس کے متحمل ہیں اور شرعی قوانین اس کے دعوے کو تسلیم کرنے سے مانع نہیں تو تسلیم کیا جائے ورنہ نہیں۔ مگر ہم تھوڑی دیکھ لیں اس بات کو تسلیم کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مرزا جی کے دعوے کے مطابق، وفات پا چکے اور اب جس مسیح موعود کے نزول کی خبریں اسلامی روایات میں منقول ہیں وہ ان کے مثیل کوئی اور شخص ہوں گے تب بھی مرزا جی کے لئے مسیحیت کا ثابت ہونا محال ہے کیونکہ

کس نیاید پڑیر سایہ بوم در ہما از جہاں شود معدوم

مرزا جی کے اعمال و اخلاق عمر بھر کے کارنامے دیکھنے والا آدمی تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مسیح موعود تو بڑی چیز ہے۔ بہر حال ”عقل“ اس مرزائی منطق کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو تو مرزا زندہ ہوں اور نبی بن بیٹھیں ورنہ ان کی اور ان کے دعوؤں کی موت آجادے۔ ہاں سمیت اور عقل کی بات یہ تھی کہ اگر ان کو مسیح موعود بننا تھا تو مرد میدان بن کر سامنے آتے اور اپنے اندر وہ صفات اور اخلاق و عادات دکھلاتے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر تھے اور خلق خدا کے لئے وہ

کام کر جاتے جو مسیح موعود کے فرائض منصبی ہیں، پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو شاید لوگ انہیں بھول جاتے اور کہہ اٹھتے ہ  
من کہ امر و مزہبت نقد حاصل می شود

دعدہ فردائے زاہد را چرا باور کنم

لیکن یہاں تو اس کے نام صفر ہی نہیں بلکہ نقیض صریح موجود تھی مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک ادنیٰ کرشمہ یہ ہو گا کہ وہ دنیا کو مسلمانوں سے اس طرح بھریں گے جیسے پانی سے بزن بھر جاتا ہے اور کوئی کافر باقی نہ رہے گا۔ مرزا جی تشریف لائے تو آپ کی برکت سے دنیا کے ستر کروڑ مسلمان (آپ کے فتوے کے مطابق) کافر ہو گئے خوب میجانی کی ۵

جب مسیحا دشمن جاں بہر تو کیا ہو زندگی کون رہبر بن سکے جب غصہ بہکانے لگے  
دنیا تو اپنے مصائب سے عاجز ہو کر خود ہی مسیح کے انتظار میں ہے کہ وہ تشریف لائیں تو ہم ان کے قدم لیں لیکن کوئی میجانی بھی تو دکھائے ۵

یہ مان لیا ہم نے کہ عیسیٰ سے سوا ہو جب جا میں کہ درود دل عاشق کی دوا ہو

الحاصل واثر یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ مسیحیت کو حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بحث ہی محض اس پالیسی پر مبنی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف جذب کر لی جائے تاکہ وہ دعویٰ مسیحیت کا جائزہ لینے اور اس کے اخلاق و اعمال و معاملات و حالات کو حضرت مسیح کی صفات سے تطبیق دینے کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس خط منحنی کی تطبیق خط مستقیم پر کیسے ہوگی، یہاں کفر، جھوٹ، مکڑ ہو پرستی کے سوا کیا رکھا ہے تاویلات بلکہ تحریفیات کرتے بھی نہ بن پڑے گی اور سوائے اس کے کہ سیکڑوں نصوص شرعیہ کی صریح تکذیب کر کے کفر کا ایک اور تمغہ حاصل کریں اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس لئے اصول مرزائیت میں زبردستی وفات مسیح علیہ السلام کے عقیدہ کو درج کیا گیا بلکہ اسی مسئلہ کو تمام اپنے مذہب و صداقت کا سنگ بنیاد بتلایا گیا۔ علماء جانتے تھے کہ مرزا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذات اور ذاتی صفات عقائد

اخلاق معرکہ بحث نہ بنیں بلکہ لوگ اس مسئلہ میں اُلجھے رہیں کیونکہ اول تو یہ مسئلہ علمی ہے عوام اس کے حق و باطل کی تمیز ہی نہ کر سکیں گے۔ مناظرہ میں ہر قسم کی شکست و ذلت کے باوجود بھی مرزاجی کو کہنے کی گنجائش رہے گی کہ ہم جیتے۔ اور اگر بالفرض اہل حق نے کہیں اُن کا منہ اس طرح بھی بند کر دیا کہ وہ بالکل نہ بول سکے تب بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں پر یہ اثر ہوگا کہ ایک فروغی سی بحث ہے اس میں اگر ان کا خیال مخالف ہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ایسے اختلافات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بغرض اس بحث کی وجہ سے مرزائیت کے عظیم الشان اور خطرناک فتنہ کو ہلکا اور خفیف اختلاف سمجھنے لگیں گے، علماء اس فکر کو سمجھے اور فرمایا کہ ۵

بہرنگے کہ خواہی جامہ مے پوش من اندازۃ ت رami شناسم

اور اسی لئے اہل تجربہ نے اس بحث کو طول دینا شروع میں پسند نہ کیا بلکہ صرف اس کو کافی سمجھا اور حقیقت میں اب بھی یہی کافی ہے کہ مرزاجی کے حالات کا کچھ چٹھا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے جس کو دیکھ کر وہ خود بخود کہہ اٹھیں کہ اگر دنیا کا ہر ایک انسان مسیح موعود بن سکے تو بن جائے لیکن مرزاجی تو اپنے کارناموں کی بدولت قیامت تک کسی طرح مسیح موعود کی خاک راہ بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں مرزائیت کا خاتمہ تو صرف اتنی بات سے ہو جاتا ہے۔ مرزائی ہونے کی حیثیت سے کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ اس فیصلہ کن اور آسہل و اقرب طریق کو چھوڑ کر وفات مسیح علیہ السلام کی غیر متعلق بحث پر زور دے اور نہ کسی مسلمان کے لئے بحیثیت مناظرہ یہ ضروری ہے کہ مرزائیوں کے مقابل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کا ثبوت پیش کرے لیکن پھر وہ وجہ سے علماء کو اس مسئلہ پر روشنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک یہ کہ فی نفسہ یہ مسئلہ اہم اور اجتماعی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں پھر نازل ہوں گے نصوص فرقانیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع اُمت کے قطعی دلائل اس کے ایسے شاہد ہیں

۱۰ کیونکہ مرزاجی خود اپنے اقرار سے ہر برس بدتر ثابت ہو چکے ہیں۔

کسی مسلمان کو اس سے آنکھ چرانے کی مجال نہیں اور کسی تاویل و تخریف کی گنجائش نہیں۔  
دوسرے یہ کہ مرزائیوں کی نظر فریب چالاک کی نے عوام پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وفات  
مسیح علیہ السلام کا مسئلہ مرزائیت کا سنگ بنیاد ہے اور اسی مسئلہ کے فیصلہ پر اس  
کی شکست اور فتح کا دار و مدار ہے۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت  
ہو گئی تو گویا مرزاجی کی مسیحیت مسلم ہو گئی اس لئے بھی علماء اسلام کو اس کی طرف توجہ  
کرنے کی ضرورت ہوئی کہ عوام اس مغالطہ میں نہ پھنس جائیں۔

نیز ایک یہ بات بھی اس کی طرف داعی ہوئی کہ مرزائی مبلغین نے عوام کے خیالات  
میں اس مسئلہ کے متعلق بہت سے ادھام پیدا کر دیئے تھے۔ ان کا ازالہ سب سے  
زیادہ ضروری تھا۔

اس لئے علماء اسلام اس طرف متوجہ ہوئے تو بفضلہ تعالیٰ مختلف زبانوں  
اور مختلف پیرایوں اور مختلف طرز استدلال میں بہت سے چھوٹے بڑے رسالے  
اس بحث پر لکھے گئے جن میں قرآن و حدیث کی اولہ قطعاً پیش کرنے کے ساتھ ہی  
مرزائی ادھام کی بھی قلعی کھول دی گئی۔

دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں مسلمانوں کا صحیح معنی میں مذہبی مرکز ہے  
اس نے جس وقت اس کی طرف توجہ کی تو دو سال کے عرصہ میں بہت سے رسائل  
اس موضوع پر تصنیف ہو کر مفید خواص و عوام ہوئے خاص اس مسئلہ پر بھی رسائل  
ذیل تصنیف ہوئے ہیں اور بعض زیر تالیف ہیں۔

مصنفہ مولانا محمد اویس صاحب ریس دارالعلوم دیوبند	کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ
مصنفہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مدرس دارالعلوم دیوبند	الجواب الفصیح فی حیات المسیم
مصنفہ حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب ناظم تعلیم و تبلیغ دارالعلوم دیوبند	إعلام الخیر فی حدیث ابن کثیر
مصنفہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب	عقیدۃ الاسلام فی حیات
کشمیری صدر مدرس دارالعلوم دیوبند	عیسیٰ علیہ السلام



ان سب رسائل میں آخر الذکر تصنیف سب سے زیادہ جامع اور با جواب ثابت ہوئی جس نے اس بحث کا بجلی خاتمہ کر دیا لیکن نزول مسیح علیہ السلام کے متعلق جو احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں ان کا استیعاب اس میں بھی نہیں کیا گیا تھا اس لئے حضرت ممدوح نے مکرر اس طرف توجہ فرمائی اور ذخیرہ حدیث کی جتنی کتب اس وقت میسر آسکتی تھیں ان سب کا تتبع کر کے تھوڑے سے عرصہ میں تمام روایات کو ایک مستقل رسالہ کی شکل میں جمع فرما دیا حالانکہ اس کے لئے مسند احمد کی پانچوں عظیم و ضخیم جلدوں کو بھی حرف بھرت مطالعہ کرنا پڑا اور اب محمد نند یہ سو سے زائد احادیث کا مجموعہ اس بحث پر جمع ہو گیا۔

اس سے پہلے بھی بعض علمائے اس موضوع پر رسالے لکھے ہیں لیکن اتنا مواد کسی نے جمع نہیں کیا۔ قاضی شوکانی نے اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے جن کا نام 'التوضیح بما تواتر فی المنتظر والمہدی والمسیح' رکھا ہے اس میں اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ مہدی علیہ السلام اور دجال کی احادیث کو بھی شامل کر لیا ہے لیکن پھر بھی اس میں تیس سے زیادہ احادیث نہیں! الغرض حضرت شاہ صاحب موصوف نے یہ احادیث کا مادہ جمع فرما کر احقر کے سپرد فرمایا احقر نے حسب الارشاد اس کو عربی زبان میں لکھ کر التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے نام سے شائع کیا۔ لیکن اول تو یہ رسالہ عرب ممالک کے پیش نظر عربی میں لکھا گیا تھا پھر اس کی تفصیل بھی طویل تھی۔ اس لئے ابنائے زمانہ کی نزاکت طبع اور قلت فرصت کا خیال کر کے احقر نے تمام رسالہ کی رُوح اور خلاصہ اس طرح چند اوراق میں درج کر دیا کہ احادیث مندرجہ رسالہ میں جو جو علامات مسیح موعود کے لئے وارد ہوئی ہیں ان کو قرآن و حدیث کی تصریحات کے ساتھ اردو میں بیان کیا اور پھر مرزا صاحب کے حالات سے اس کا جائزہ لیا کہ ان میں یہ علامات کس حد تک موجود ہیں جس کے نتیجہ میں واضح ہوا کہ ان علامات میں سے ایک بھی انھیں نصیب نہیں اس رسالہ کو 'مسیح موعود کی پہچان'

کے نام شائع کیا گیا تھا، اب جب کہ اصل کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے اسے اس کا حصہ اول بنا کر ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کو کسی طرح گنہائش نہیں رہتی کہ وہ قادیانی مرزا صاحب کے مسیح موعود ہونے کا وہم بھی دل میں لاسکے۔ والتوفیق بید اللہ سبحانہ وعلیہ التکلیل۔

العبد الضعیف

محمد شفیع غفرلہ



# علاماتِ مسیح کا اجمالی نقشہ

ادوی

مرزا قادیانی کے حالات سے ان کا مقابلہ

سورۃ	سورۃ	سورۃ	سورۃ	سورۃ
سورۃ مائیدہ	سورۃ مائیدہ	سورۃ مائیدہ	سورۃ مائیدہ	سورۃ مائیدہ
ان علامات اور اوصاف کا بیان قرآن و حدیث سے	جن احادیث میں یہ اوصاف مذکور ہیں ان کے حوالہ مع نمبر حدیث جو مطہر رسالہ التقریح میں درج ہے	مرزا کے حالات کا مقابلہ مسیح موعود کے حالات مذکورہ سے	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں
نام مبارک	عیسیٰ علیہ السلام	غلام احمد	آپ کی کینیت	آپ کی کینیت
۱	قرآن مجید و احادیث مشہورہ شریفہ نقل حوالہ کی حاجت نہیں	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۲	آپ کی کینیت
۲	ذَٰلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۳	آپ کا لقب
۳	إِنَّ اللَّهَ يُدْعِيهِ بِكَلِمَاتٍ هُنَّ لِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۴	آپ کا اللہ ماجدہ
۴	وَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَمَا تَقُولُونَ الْفَاهَا إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ الْآخِرَةَ	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۵	آپ کی والدہ
۵	رُوحَ اللَّهِ	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۶	نقی والدہ
۶	قرآن مجید و احادیث مشہورہ شریفہ نقل حوالہ کی حاجت نہیں	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۷	آپ کے نانا
۷	بعض قرآن آپ غیر والد کے محض قدر خداوند کی پیدا ہوئے	مرزا قادیانی کی کوئی کینیت ہی مشہور نہیں	۸	آپ کے نانا
۸	عمران علیہ السلام	مرزا قادیانی کے نانا کو کون جانتا ہے		

آپ کے ماموں	۹	ہارون	يَا حَتَّ هَرُونَ (مريم)	ہارون سے مراد اس جگہ ہارون نبی علیہ السلام نہیں کیونکہ وہ تو مریم سے بہت پہلے گذر چکے تھے بلکہ ان کے نام پر حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا (بکد ارادہ مسلم والنسائی والترمذی زفرغنا)
آپ کی نانی	۱۰	امراة عمران (حبہ)	اِذْ كَانَتْ اِمْرَاةً مِّنْ اَوْلَادِ	
	۱۱	ان کی یہ نذر کہ اس حمل سے جو چھپے ہو گا وہ بیت المقدس کے لئے وقف کروں گی	اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (آل عمران)	
	۱۲	پھر حمل سے لڑکی کا پیدا ہونا	فَلَمَّا وَصَعَهَا اِلَيْهِ	
	۱۳	پھر ان کا نذر کرنا کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے وقف کے قابل نہیں	اِنِّي وَصَعْتُهَا اُنْثٰى	
	۱۴	اس لڑکی کا نام مریم رکھنا	اِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ	
والدہ مسیحی ہو علیہ السلام حضرت مریم کے بعض حالات	۱۵	مس شیطان سے محفوظ رہنا	اِنِّي اَعِيذُهَا بِكَ	چراغ بی صاحبہ کو یہ کہاں نصیب ہوتا کیونکہ حدیث نبوی نے اس کو صرف عیسیٰ کا قصہ قرار دیا ہے (بخاری و مسلم)
	۱۶	ان کا نشوونما غیر عادی طور پر ایک دن میں سال بھر کی برابر ہونا	وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا الآیہ	چراغ بی صاحبہ کی حالت شاہد ہے کہ عام بچوں کی طرح ہوئی
	۱۷	جواویر بیت المقدس کا مریم کی تربیت میں چھوڑ دنا اور حضرت زکریا کا فیصل ہونا	اِذْ يَخْتَصِمُونَ الْآیہ	چراغ بی کو یہ عورت کہاں نصیب
	۱۸	ان کو حجاب میں ٹھہرانا اور	كَلِمَاتٍ خَلَّ عَلَيْنَا زَكْرِيَّا الْبَحْرَابِ	چراغ بی کے لڑوک کا

حضرت مریم کے ساتھ جو حالات ترقی عادت کے پیش آنے لگے تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دراصل اراص تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی بنیاد تھی۔

۱۹	اُن کے پاس نبی مذاق آنا	وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا آتِيَةً	حال سب کو معلوم ہے
۲۰	ذکر یا کا سوال اور مریم کا جواب کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔	قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ	" "
۲۱	فرشتوں کا اُن سے کلام کرنا	اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِيُدْعِيَنَّكِ رَبُّكَ	" "
۲۲	اُن کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا	بِإِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ (آل عمران)	" "
۲۳	اُن کا حیض سے پاک ہونا	وَاطَهَّرَكِ	مرزا جی کی والدہ کو یہ بات نصیب نہ تھی
۲۴	تمام دنیا کی وجودہ عورتوں سے افضل ہونا	وَاصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ	" "
۲۵	مریم کا ایک گوشہ میں جانا	اِذَا نَتَيْدَتْ (مریم)	" "
۲۶	اس گوشہ کا شرقی جانب میں ہونا	مَكَانًا شَرْقِيًّا	" "
۲۷	اُن کا پردہ ڈالنا	فَاَخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا	" "
۲۸	ان کے پاس بشکل انسان فرشتہ کا آنا	فَاَرٰنَسْتَنَا اِيْتِهَآرُودُ حٰنًا فَمَثَلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا	حالات استقرار میں وغیرہ
۲۹	مریم کا پناہ مانگنا	اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ	" "
۳۰	فرشتہ کا منجانب اللہ ولادت حضرت عیسیٰ کی خبر دینا	لَا هَبْ لَكَ عِلْمًا اَرِيْتَا	" "
۳۱	مریم کا اس خبر پر تعجب کرنا کہ بیخبر صحبت مرد کے کیسے ہو گا	اِنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ عِلْمًا	" "
۳۲	فرشتہ کا منجانب اللہ یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ سب آسان ہے	قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (مریم)	مرزا جی کی والدہ کو یہ بات ہرگز نصیب نہیں ہوئی۔
۳۳	حکم خداوندی بیخبر صحبت مرد کے ان کا حاملہ ہونا۔	وَحَمَلْتَهُ	" "

۳۳	دروڑہ کے وقت ایک کھجور کے درخت کے نیچے جانا	فَاجْلَعَهَا الْمَخَاضُ (مریم)	”	”
۳۵	مسکونہ مکان سے دور ایک باغ کے گوشہ میں	فَلَمَّا نَبَذَتْ بِهَا مَكَانًا قَصِيًّا (مریم)	”	”
۳۶	ایک کھجور کے درخت کے تنہ پر ٹیک لگائے ہوئے	إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ نفسیب نہیں ہوئی	مرزا جی کی والدہ کو یہ بات ہرگز	”
۳۷	میرم کا بوجہ حیا کے پریشان ہونا اور لوگوں کی تمتم سے ڈرنا	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا (مریم)	”	”
۳۸	درخت کے نیچے سے فرشتہ کا آواز دینا کہ گھبراؤ نہیں اللہ نے تمہارے نیچے ایک نہر پیدا کر دی ہے۔	أَلَا نَحْزَنِي فَدَجَلَلَّ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا	”	”
۳۹	ولادت کے بعد حضرت میرم کی غذا تازہ کھجوریں	تَسَاقَطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا	”	”
۴۰	حضرت میرم کا آپ کو گود میں اٹھا کر گھر لانا۔	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ	”	”
۴۱	ان کی قوم کا تمتم رکھنا اور بدنام کرنا	لِيُرِيدَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا	”	”
۴۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا اور فرمانا کہ میں نبی ہوں	إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آخِشِي أَكْتُتَبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا	مرزا جی کو ولادت کے قریب چھپن میں بولنا کہاں نصیب ہوا	”
۴۳	وحیہ ہونا	وَجِئْنَا بِالدِّيَادِ الْآخِرَةِ	میں تک سب علامات قرآن سے بیان کی گئی ہیں۔	”

۴۳	تدوقامت در میان	حدیث مندرجہ رسالہ التفریح مرزا جی کا حلیہ اس کے خلاف تھا ۱ بروایت ابو داؤد و ابن ابی شیبہ و احمد ابن حبان و صحیح ابن حجر فی الفتح
۴۵	رنگ سفید مرغی مائل	ایضاً
۴۶	بالوں کی لمبائی دونوں شافوں تک ہوگی	حدیث ۱۰ کے حاشیہ پر حدیث بخاری
۴۷	بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمکدار جیسے نمانے کے بعد ہوتے ہیں	حدیث ۱۱ ابو داؤد و احمد وغیرہما
۴۸	بال سیدھے ہوں گے پھچپدار نہ ہوں گے	حدیث ۱۵ اسناد احمد
۴۹	عروہ بن مسعود	حدیث ۱۶ مسلم، احمد، حاکم
۵۰	لوبیا اور جو چیزیں آگ پر نہ پکیں	حدیث ۱۷ رواہ الدیلمی اور انڈے اڑاتے تھے
۵۱	مردوں کو حکم خداوند زندہ کرنا	مرزا جی تو زندوں کو مارنے کی نکلیں تھے چنانچہ بہت سے لوگوں کے لئے مرنے کی دعائیں اور پیش گوئیاں کہیں گو پوری نہ ہوئیں
۵۲	برص کے بیمار کو شفا دینا	مرزا جی سے تو ایک ابرص بھی اچھا نہ ہوا

صحابہ میں  
آپ کے مشابہ

آپ کی  
خوراک

سچ ہوود  
کے  
خصائص

۵۳	مادر زادانہ سے کربکلم الہی شفا دینا	اَبْرِيُّ الْاَكْمَةِ وَ الْاَبْرَصَ مرزا جی سے تو ایک اندھا بنی اچھا نہ ہوا
۵۴	مٹی کی چڑیلوں میں کلم الہی جان ڈانا	فَاَنْفَعُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيِّرًا اَيُّ ذَنْ اَللّٰهِ مرزا جی کو یہ شرف کہاں نصیب
۵۵	آدمیوں کے کھائے ہوئے کھانے کو تباہینا کر کیا کھایا تھا	وَ اَنْبِيَّاكُمْ يَبْنٰتًا كَالْمُرْوِ وَمَا تَدْخِرُوْنَ فِيْ يَبُوْتِكُمْ (آل عمران)
۵۶	جرمیزیں لوگوں کے گھروں میں چھپی ہوئی رکھی ہیں ان کو بن دیکھے تباہ دینا	" " " "
۵۷	کفار نبی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ کے قتل کا ارادہ کرنا اور حفاظت الہی	وَمَكْرُوْا وَّمَكْرَ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ خَيْرٌ لِّلْكَافِرِيْنَ " "
۵۸	کفار کے زعفر کے وقت پکڑ آسمان پر زندہ اٹھانا	اِنِّيْ مُتَوَقِّئُكَ وَ رَاْفِعُكَ اِلٰى آ مرزا جی کی ناگفتہ بہ موت کا حال سب کو معلوم ہے
۵۹	قرب قیامت میں پھر آسمان سے اترنا	حدیث ۷۷ سے ۷۹ تک تقریباً تمام احادیث میں صراحت ہے
۶۰	دو کپڑے زرد رنگ کے پینے ہوں گے	حدیث ۷۵ و ۷۶ مسلم و ابوداؤد وغیرہ " "
۶۱	اچھے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی	حدیث ۷۸ ابن عساکر " "
۶۲	آپ ایک نرہ پنیں گے	حدیث ۷۹ درمنثور شاید یہ بھڑا رہ پینے کی نرہ نہ آئی ہو



۶۳	دو دنوں ہاتھ دو درشتوں کے کندھوں پر رکھے جوئے آئیں گے	حدیث ۵، مسلم، ابو داؤد، ترمذی واسطہ۔ احمد	مرزا جی کو اس عزت سے کیا
۶۴	آپ کے ہاتھیں ایک حربہ ہوگا جس سے مجال کو قتل کریں گے	حدیث ۱۳۵، ابن مساکر	" "
۶۵	اس وقت جس کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی مرجائے گا	حدیث ۵، صحیح مسلم	مرزا جی کے سانس سے تو ایک کافر بھی نہ مرا
۶۶	سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی	" "	مرزا جی کا حال بدابہت اس کے خلاف تھا۔
۶۷	آپ کا نزول دمشق میں ہوگا	حدیث ۵، مذکورہ	مرزا جی نے مگر بھر دمشق نہیں دیکھا
۶۸	دمشق میں بھی سفید منارے کے پاس	" "	" "
۶۹	دمشق کے بھی شرفی حصہ میں	" "	" "
۷۰	نماز صبح کے وقت ہوں گے	حدیث ۱۶، احمد، حاکم ابن ابی شیبہ	" "
۷۱	مسلمانوں کی ایک جماعت جو مجال سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے ہوں گے	حدیث ۷، مسلم	مرزا جی کو ان چیزوں سے کیا واسطہ نہ یہاں کوئی مددگار نہ وہ مجال جس کا مقابلہ حضرت مسیح کریں گے نہ اس سے لڑنے کا اس وقت کوئی سوال
۷۲	ان کی تعداد آٹھ سو واد چار سو عورتیں ہوگی	حدیث ۶۹، دیلمی	مرزا جی کو ان چیزوں سے کیا واسطہ
۷۳	بوقت نزول عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ نماز کے لئے صفیں درست کرتے ہوں گے	حدیث ۷، مسلم	" "

		۴۳	اس وقت اس جماعت کے امام حضرت مہدی ہوں گے	حدیث ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۲ و ۱۱۳
		۴۵	حضرت مہدی علیہ السلام کو امامت کے لئے بلائیں گے اور وہ انکار کریں گے	حدیث ۳۲ مسلم و احمد، مرزا جی کے حالات قطعاً اس کے خلاف تھے
		۴۶	جب مہدی پچھے پھٹے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں کو امام بنائیں گے	حدیث ۱۳ ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ
		۴۷	پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے	حدیث ۴۱ ابو نعیم، ۱۳
		۴۸	چالیس سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے	حدیث ۷۱ ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، احمد، ابن حبان، ابن جریر
		۴۹	آپ بعد نزول نکاح کریں گے	حدیث ۶۳ فتح الباری و ۵۵ کنز العمال
		۸۰	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح ہوگا	حدیث ۱۰۱ کتاب الخلفاء الملقبہ بزی
		۸۱	بعد نزول آپ کی اولاد ہوگی	حدیث ۵۵ مذکور
		۸۲	صلیب توڑیں گے یعنی صلیب پرستی کو اٹھادیں گے	حدیث ۱۰۱ بخاری و مسلم
			نزل کے بعد مسیح موعود کے کارنامے	مرزا جی کے زمانہ میں صلیب پرستی اور نصرانیت کی انتہائی ترقی ہو گئی

۸۳	خنزیر کو قتل کریں گے یعنی فخرانیت کو مٹائیں گے	حدیث ابو نعیم اور مسلم	مرزا جی کے زمانہ میں صلیب پرستی اور فخرانیت کی انتہائی ترقی ہو گئی
۸۴	آپ نماز سے فارغ ہو کر دروازہ مسجد کھلوائیں گے اور اس کے پیچھے دجال ہوگا	حدیث ۱۳	
۸۵	دجال اور اس کے اعوان یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے	"	مرزا جی نے جہاد خراب میں بھی نہ دیکھا
۸۶	دجال کو قتل فرمادیں گے	"	مرزا جی کے نزدیک دجال انگریز ہیں اور انہوں سے ایک کو بھی قتل نہیں کیا
۸۷	قتل ارض فلسطین میں باب الد کے پاس واقع ہوگا	"	مرزا جی نے باب الد کی صورت بھی نہیں دیکھی
۸۸	اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی	"	مرزا جی کے آتے ہی دان کے قول کے مطابق اساری دنیا کا فر ہو گئی
۸۹	جو یہودی باقی ہوں گے چین چن کر قتل کر دیئے جائیں گے	"	مرزا جی کے زمانہ میں ایک یہودی بھی قتل نہ ہوا
۹۰	کسی یہودی کو کوئی چیز پینا نہ دے کے گی	"	مرزا جی کے زمانہ میں یہودی آرام سے بسر کرتے رہے
۹۱	یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی پھینچا ہوا ہے	"	
۹۲	اس وقت اسلام کے سوا تمام مذہب مٹ جائیں گے	حدیث ابو داؤد احمد ابن ابی شیبہ ابن جریر ابن جریر	مرزا جی کی برکت سے اسلام مٹنے کا

۹۳	اور جہاد موقوف ہوجائے گا کیونکہ کوئی کافر ہی نہ رہے گا	حدیث ۱۰ بخاری و مسلم	مرزا جی کے ہمدیس کافر بھی رہے اور جہاد بھی مسلمان کرتے رہے اں مرزا جی کو جہاد نصیب نہیں ہوا
۹۴	اور اس لئے جزیرہ اور خراج کا حکم بھی باقی نہ رہے گا	حدیث ۱۱ مسند احمد ابوداؤد و ابن ماجہ ۳۶ مسند رک حکم وغیرہ ۱۵ مسند احمد	
۹۵	مال و زر لوگوں میں اتنا عام کر دیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا	حدیث ۱۲ بخاری و مسلم	مرزا جی کی برکت سے اتنا افلاس نہ فقر لوگوں میں بڑھا کہ خاقوں مرنے لگے
۹۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی امامت کریں گے	حدیث ۱۳ مسلم مسند احمد	پہلی نماز کے امام تو ہمدی ہونگے جیسا کہ گذر چکا ہے اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے
۹۷	حضرت مسیح مقام نوح الودعار میں تشریف لے جائیں گے	"	مرزا جی نے شاید اس مقام کا نام بھی نہ سنا ہو
۹۸	حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے	"	مرزا جی دونوں سے محروم مرے
۹۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جائیں گے	حدیث ۱۴ تفسیر و رشید بحوالہ حاکم و ابن جریر	مرزا جی اس سے بھی محروم رہے
۱۰۰	آپ ان کو سلام کا جواب دیں گے	"	مرزا جی کی ایسی قسمت کہاں تھی
۱۰۱	قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے	حدیث ۱۵ الاشارة للشوکانی	مرزا جی تو احادیث کو ردی کی ٹوڑی میں ڈالتے تھے۔
۱۰۲	ہر قسم کی دینی اور دنیوی برکات نازل ہوں گی	حدیث ۱۶ مسلم ابوداؤد ترمذی مسند احمد	مرزا جی کی برکت سے برکات کے پیمانے کے زمانہ میں ظاہری اور باطنی برکات

۱۰۳	سب کے دلوں سے بعض و حسد اور کینہ نکل جائے گا	حدیث ۱۲ ابو داؤد و ابی ماجہ وغیرہ	مرزا جی کے عہد میں بعض وحسد کی وہ کثرت ہوئی کہ الامان
۱۰۴	ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا	حدیث ۵ مذکور	مرزا جی کی برکات ان سب باتوں کے برعکس ہوئی جن کا مشاہدہ آج تک ہر شخص کر رہا ہے
۱۰۵	ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لئے کافی ہوگی	حدیث ۵ مذکور	" "
۱۰۶	ایک دودھ والی بکری ایک قبیلہ کے لئے کافی ہو جائے گی	"	مرزا جی کی برکات ان سب باتوں کے برعکس ہوئیں جن کا مشاہدہ آج تک شخص کر رہا ہے
۱۰۷	ہر ڈھکے والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائیگا	حدیث ۱۳ ابو داؤد ابی ماجہ	" "
۱۰۸	یہاں تک کہ اگر ایک پھر پاپ کے منہ میں ہاتھ دیکھا تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا	"	" "
۱۰۹	ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا	"	" "
۱۱۰	بھیریا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسا کہ تار لڑکی حقا تلت کے لئے رہتا ہے	"	" "

۱۱۱	ساری زمین امن مان سے اس حدیث سے ابو داؤد طرح پھر جائے گی جیسے برتن پانی سے پھر جاتا ہے	مرزا جی کی برکت سے ساری دنیا بد امنی سے بھر گئی۔ ابن ماجہ
۱۱۲	صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا	مرزا جی کے یہاں تو نبوت کا معیار مدار ہی صدقات کی وصولیابی ہے
۱۱۳	سات سال تک	یہاں تو ایک دن بھی نہ ہوئی حدیث ۱۹ مسلم و احمد و حاکم
۱۱۴	روحی لشکر مقام اعماق یا اہل میں اترے گا	مرزا جی کے زمانہ میں ایسا نہ ہوا حدیث ۱۹ مسلم
۱۱۵	ان سے جہاد کے لئے میرے ایک لشکر چلے گا	" "
۱۱۶	یہ لشکر اپنے زمانہ کے بہترین لوگوں کا جمع ہوگا	مرزا صاحب نے ساری عمر یہ حالات خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے
۱۱۷	اس جہاد میں لوگوں کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے	" "
۱۱۸	ایک تہائی حصہ شکست کھائے گا	" "
۱۱۹	ایک تہائی شہید ہو جائے گا	" "
۱۲۰	ایک تہائی فتح پائیں گے	" "
۱۲۱	قسطنطنیہ فتح کریں گے	" "
۱۲۲	جس وقت وہ فنیست تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج و جمال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی	" "
	پہلے خروج و جمال کی غلط خبر مشہور ہونا	

۱۲۳	لیکن جب لوگ ملک شام میں واپس آئیں گے تو وہاں نکل آئے گا	حدیث ۱۷۷ مسلم	" "
۱۲۴	عرب اس زمانہ میں بہت کم ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے	حدیث ۱۷۳ ابو داؤد	" "
۱۲۵	مسلمان وہاں سے بچ کر فریق نامی گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے	حدیث ۱۶۷ احمد حاکم، طبرانی	" "
۱۲۶	اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی کمان کا چلچلا کر کھا جائیں گے	حدیث ۱۶۹ مذکور	" "
۱۲۷	اس وقت اچانک ایک منادی آواز دینگا کہ تمہارا فریاد رس آگیا	"	" "
۱۲۸	لوگ تعجب کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے	"	" "
۱۲۹	ایک مسلمانوں کا لشکر ہندوستان پر جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا	حدیث ۱۶۶ ابو نعیم	مرزا جی جہاد کو مٹانے کے لئے آئے ہیں ان کو یہ کہاں نصیب
۱۳۰	یہ لشکر اللہ کے نزدیک مقبول و مغفور ہوگا	"	" "
۱۳۱	جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا	"	مرزا جی نے عرب بھر ملک شام دیکھا بھی نہیں۔

مرزا جی اگر سپر خود ایک دجال تھے مگر یہ بڑا دجال ان کے زمانہ میں نہیں نکلا	حدیث ۵ مسلم ابو داؤد، ترمذی احمد	شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا	۱۳۲	مسیح موعود کے زمانہ کے اہم واقعات آپ کے نزول سے پہلے دجال کا خروج دجال کی علامات
ان حالات کا کوئی شخص مرزا جی کے زمانہ میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا	حدیث ۳۱ مسند احمد مستدرک حاکم	اس کی پیشانی پر کافراں صورت میں لکھا ہوگا۔ ک۔ ف۔ ر	۱۳۳	
" "	حدیث ۳۵ ابن ابی شیبہ	وہ بائیں آنکھ سے کاٹا ہوگا	۱۳۴	
" "	" "	دائیں آنکھ میں سخت ناخن ہوگا	۱۳۵	
" "	حدیث ۳۱ مسند احمد	تمام دنیا میں پھر جائے گا کوئی جگہ باقی نہ رہے گی جہاں وہ نہ پہنچے	۱۳۶	
مرزا جی کے زمانہ میں ان میں سے ایک واقعہ بھی ہرگز رونما نہیں ہوا یہاں تک کہ اس میں کسی مرزائی کا بجاز و استعارہ کا کام نہیں دیکھتا	حدیث ۳۱ مسند احمد	البتہ حرمین مکہ و مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے	۱۳۷	
" "	حدیث ۳۱ ابو حاکم و احمد	مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا جو دجال کو اندر نہ گھسنے دیں گے	۱۳۸	
" "	حدیث ۱۳ مذکور و حدیث ۶۸ خزرج معمر	جب مکہ و مدینہ سے دفع کر دیا جائے گا تو ظہرب احد میں سینہ دکھاری زمین کے تہ پر جا کر ٹھہرے گا	۱۳۹	



		۱۴۰	اس وقت مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے جو ناقین کو مدینہ سے نکال بھیں گے اور تمام مناقق مرد و عورت و جمال کے ساتھ جا لیں گے	حدیث ۳ ابو داؤد وغیرہ ۶۸ اخر جبر، معمر
		۱۴۱	اس کے ساتھ ظاہری طور پر جنت و دوزخ ہوگی مگر حقیقت میں اس کی جنت و دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی	حدیث ۳ مسند احمد
	کیا کوئی مرزائی ثنابت کر سکتا ہے کہ مرزاجی کے زمانہ میں یہ واقعات پیش آئے۔	۱۴۲	اس کے زمانہ میں ایک دن سال بھر کی برابر اور دوسرا مہینہ بھر کی برابر اور تیسرا ہفتہ کی برابر ہوگا اور پھر باقی ایام عاد کے موافق	"
		۱۴۳	وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا	حدیث ۳ احمد و حاکم
		۱۴۴	اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے	"
	دجال کے حالات	۱۴۵	جب وہ بادل کو کہے گا فرزا بارش ہو جائے گی	حدیث ۵ مسلم، ابو داؤد
		۱۴۶	اور جب چاہے گا تو خط پڑ جائیگا	"
		۱۴۷	مادر زادہ مے اور ابرص کو تندرست کر دے گا	حدیث ۳ طبرانی

<p>کیا کوئی مرزائی ثابت کر سکتا ہے کہ مرزاجی کے زمانہ میں ان حالات کا کوئی شخص پیدا ہوا</p>	<p>حدیث ابو داؤد مسلم، ترمذی وغیرہ</p>	<p>۱۴۸ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو فوراً باہر آکر اس کے پیچھے ہوجائیں گے</p>	<p>۱۴۸</p>
<p>" " "</p>	<p>" " "</p>	<p>۱۴۹ دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے دو ٹکڑے بیچ سے کر دے گا اور پھر اس کو بلائے گا تو وہ صحیح سالم ہو کر ہنستا ہوا سامنے آجائے گا</p>	<p>۱۴۹</p>
<p>" " "</p>	<p>حدیث ابو داؤد ابن ماجہ، ابن حبان ابن خزیمہ</p>	<p>۱۵۰ اس کے ساتھ متر ہزار یہودی ہوں گے جن کے پاس جڑاؤ تلوازیں اور ساج ہوں گے</p>	<p>۱۵۰</p>
<p>" " "</p>	<p>حدیث ۵۷، ابن ابی شیبہ جعفہ ابن حمید حاکم، بیہقی، ابن ابی حاتم</p>	<p>۱۵۱ لوگوں تھے میں فرتے ہوجائیں گے ایک فرقہ دجال کا اتباع کرے گا ایک فرقہ اپنی کشتکاری میں لگا رہے گا اور ایک فرقہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا</p>	<p>۱۵۱</p>
<p>" " "</p>	<p>حدیث ۵۷، ابن ابی شیبہ عبد بن حمید حاکم، بیہقی ابن ابی حاتم</p>	<p>۱۵۲ مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہوجائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے</p>	<p>۱۵۲</p>

<p>کیا کوئی مرزائی ثابت کر سکتا ہے کہ مرزاجی کے زمانہ میں ان حالات کا کوئی شخص پیدا ہوا</p>	<p>حدیث ۱۵۳ ابن ابی شیبہ عبدالرحمن حمید حاکم ، بیہقی ابن ابی حاتم</p>	<p>۱۵۳ اس لشکر میں ایک شخص ایک (سرخ) یا سیاہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا</p>	
<p>" "</p>	<p>حدیث ۱۵۴ مذکور</p>	<p>۱۵۴ دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں</p>	<p>دجال کی ہکات اور اس کے لشکر کی شکست</p>
<p>" "</p>	<p>" "</p>	<p>۱۵۵ اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی</p>	
<p>کیا کوئی قادیانی بتلا سکتا ہے کہ مرزاجی کے زمانہ میں ان حالات میں سے ایک بھی پیش آیا</p>	<p>حدیث ۱۵۶ مسلم ، ابوداؤد ترمذی ، احمد</p>	<p>۱۵۶ اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سیلاب تمام عالم کو گھیر لے گا</p>	<p>یا جوج ماجوج کا نکلنا اور ان کے بعض حالات</p>
<p>" "</p>	<p>" "</p>	<p>۱۵۷ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پہاڑوں پر جمع فرمادیں گے</p>	<p>حضرت عیسیٰ کا مسلمانوں کو نیکر طور پر چلا جانا</p>
<p>" "</p>	<p>حدیث ۱۵۸ مسلم</p>	<p>۱۵۸ یا جوج ماجوج کا ابتدائی حصہ جب دریائے طبریاہ</p>	

کیا کوئی قادیانی تہا سکتا ہے کہ مرزا جی کے زمانہ میں ان حالات میں سے ایک بھی پیش آیا	ترمذی، احمد	پرگز رے کا تو سب دریا کو پنی کر صاف کر دے گا	
"	حدیث ۵ مسلم، ابوداؤد ترمذی، احمد	۱۵۹ اس وقت ایک ہیل کا سر لوگوں کے لئے سو دینار سے بہتر ہوگا اور چونکہ قحط یا دینار سے قلت (رغبت کی وجہ سے)	
"	"	۱۶۰ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج ماجوج کے لئے بددعا فرمائیں گے	یا جوج ماجوج کے لئے بددعا فرمانا اور ان کی ہلاکت
"	"	۱۶۱ اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گلی نکال دے گا جس سے سب کے سب دفعتاً مرے ہو رہ جائیں گے	
"	"	۱۶۲ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جبل طور سے زمین پر اتریں گے	حضرت عیسیٰ کا جبل طور سے اترنا
مرزا جی نے یہ حالات خواب میں بھی نہ دیکھے	"	۱۶۳ مگر تمام زمین یا جوج ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی	

۱۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ بدبو دور ہو جائے	حدیث ۵۵ مسلم ، ابوداؤد ، ترمذی زدیکی	مرزا جی نے یہ حالات خواب میں بھی زدیکھے
۱۶۵	اللہ تعالیٰ بارش برسگا جس سے تمام زمین دھل جائے گی	"	"
۱۶۶	پھر زمین اپنی اصلی حالت پر اثرات و برکات سے بھر جائے گی	"	"
۱۶۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقعد ہے۔	حدیث ۵۵ اشارت	مسیح موعود کی وفات اور اس سے قبل و بعد کے حالات
۱۶۸	اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی	حدیث ۵۵ و ۱۵ مسند احمد و حافظ	
۱۶۹	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی	حدیث ۵۵ ، اخرجوا ابن عساکر و حدیث ۵۹ الدر المنثور	
۱۷۰	لوگ حضرت عیسیٰ کی تمہیں ارشاد کے لئے مقعد کو خلیفہ بنائیں گے	حدیث ۵۵ مذکور	
۱۷۱	پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا	"	"

مرزا جی نے یہ حالات خواب میں بھی نہیں دیکھے	حدیث ۵۵ مذکور	پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھایا جائے گا	۱۷۲
"	"	یہ واقعہ مُقعد کی موت سے تیس سال بعد ہوگا	۱۷۳
"	حدیث ۱۲۱ مسند احمد و مستدرک حاکم و ابن ماجہ وغیرہم	اس کے بعد قیامت کا حال ایسا ہوگا جیسے کس پورے فوجینہ کی خاطر کو معلوم نہیں کب و لاوت ہو جائے	۱۷۴
	حدیث ۱۵۵ الاشارة	اس کے بعد قیامت کی یا کُل قریبی علامات ظاہر ہونگی	۱۷۵





# نزول مسیح کی احادیث متواترہ

(التصريح بما تواتر في نزل المسيح كاد وتوجه)

انتخاب احادیث: حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ  
تالیف: مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
توجه و تشریح: مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب اہماد حدیث دارالعلوم کراچی





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

## عرض مترجم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد اگلے صفحات میں ان احادیث متواترہ اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانہ میں نزول اور دوسری علامات قیامت کے متعلق ہیں جن کو والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شیخ امام عصر حجیہ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ہدایت کے مطابق بنام التصدیح کہا تو اتنی نذول السیئہ جمع فرمایا تھا، پہلی مرتبہ یہ کتاب العویم دیوبند سے شائع ہوئی دوسری مرتبہ علامہ عصر عبد الفتاح ابو عقدہ حلبی شامی ازلمیذہ علامہ کوثری مصری نے تحقیق و تنقیح اور حواشی کے ساتھ اس کو بیروت سے شائع کیا، یہ کتاب عربی زبان میں تھی حضرت والد ماجد نے اس کا اردو ترجمہ لکھنے کے لئے مجھ ناکارہ کو مامور فرمایا تعمیل حکم کے لئے اپنی ناچیز کوشش ان صفحات میں پیش کی جا رہی ہے اس سلسلہ میں چند امور کی وضاحت ضروری ہے۔

۱۔ اصل کتاب ایک لٹو ایک حدیثوں پر مشتمل تھی جن میں سے ابتدائی چالیس احادیث تو ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق سب کی سب قوی سند سے ثابت بعض صحیح اور بعض حسن ہیں، ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں اور حدیث ۲۱ تا ۱۰۱ اجنبی کتاب حدیث سے لی گئی ہیں ان کے مؤلفین نے ان کے صحیح یا حسن وغیرہ ہونے کی تصریح نہیں کی بلکہ سکوت فرمایا ہے اور مؤلف مد ظلمہ کو بھی ان احادیث کی کما حقہ پھان بین کا موقع نہیں ملا اسی لئے ان احادیث کو مستقل عنوان کے ذریعہ متا ذکر کیا گیا تھا تاکہ دوسرے علماء کرام ان کی تحقیق فرما سکیں۔

۲۔ جب شیخ عبد الفتاح ابو عقدہ دامت برکاتہم نے کتاب کا دوسرا طبع فرمایا

حَلَب (شام) سے شائع فرمایا تو دیگر تحقیقات کے ساتھ انھوں نے احادیث مرفوعہ کی حد تک یہ فریضہ بھی نہایت حسن و خوبی سے انجام دیا یعنی احادیث مرفوعہ کی سند کے بارے میں محدثین کی ناقدانہ آراء کتاب کے حاشیہ میں جمع فرمادیں اور نہایت کاوش سے یہ نشانہ ہی کی کہ ان میں تین حدیثیں (یعنی حدیث ۴۸، ۵۰، ۵۱) ضعیف اور چار (یعنی حدیث ۴۲، ۴۳، ۴۹، ۵۰) موضوع ہیں اس کی کچھ تفصیل احقر نے حدیث ۴۲ سے ذرا پہلے اپنے حاشیہ میں بیان کی ہے اسے ضرور ملاحظہ فرمایا جائے۔

۳۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ دامت برکاتہم کو اپنی تحقیق کے دوران نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید بیس حدیثیں مختلف کتابوں سے دستیاب ہوئیں جو انھوں نے حَلَبی ایڈیشن میں ”تمتہ و استدراک“ کے عنوان سے اضافہ فرمادیں مگر احقر نے ان میں سے صرف پندرہ حدیثیں اپنے ترجمہ میں لی ہیں جو بعنوان ”تمتہ“ آخر کتاب میں آئیں گی باقی پانچ حدیثیں ترجمہ میں نہیں لی گئیں جس کی وجہ وہیں بیان ہوگی۔

اس طرح اب جو مجموعہ احادیث آپ کے سامنے ہے کل ایک سو سولہ احادیث پر مشتمل ہے اس میں جو تین ضعیف اور چار موضوع حدیثیں آئی ہیں ان کی نشانہ ہی ہر مناسب مقام پر کر دی گئی ہے باقی ایک سو نو حدیثوں نے جو نزولِ عیسیٰ کے بارے میں قطعی طور پر متواتر ہیں اس اجماعی عقیدے کو ہر قسم کی تحریف و تاویل سے ہمیشہ کے لئے مامون و محفوظ کر دیا ہے۔

اس کتاب کا اصل موضوع اگرچہ ”نزولِ عیسیٰ“ ہے لیکن یہ احادیث دیگر علاماتِ قیامت کی بھی بیشتر تفصیلاً سے پر مشتمل ہیں جن کا مطالعہ انشاء اللہ قلب کو نور ایمان اور خوفِ آخرت سے معمور کرے گا۔

اس کتاب کے حصہ سوم میں احقر نے ان تمام علاماتِ قیامت کو تفصیل سے ایک خاص انداز میں مرتب کر دیا ہے۔

۴۔ حضرت والد ماجد ظلم نے طبع اول میں طویل احادیث کے صرف ان حصوں کو لیا تھا جو موضوع کتاب کے لئے ناگزیر تھے باقی اجزاء بخوف طوالت حذف فرما دیئے تھے پھر شیخ عبدالفتاح ابو غدہ دامت برکاتہم نے طبع دوم میں احادیث کے متروک حصے بھی شامل فرمادیئے اس طرح کتاب کی افادیت کے ساتھ ضخامت بھی دوچند ہوگئی۔  
احقر نے ترجمہ میں بین بین راستہ اختیار کیا ہے کہ طبع اول کو تو بعینہ لے لیا اور طبع دوم کے اضافات میں سے صرف وہ حصے لئے ہیں جو موضوع کتاب کے لئے مفید نظر آئے۔

۵۔ ترجمہ صرف احادیث کا کیا گیا ہے اصل کتاب میں حضرت والد ماجد کا بصیرت افروز مقدمہ اور متن کتاب میں کہیں محدثانہ اصطلاحات اور تبصرے بھی آئے ہیں جو علماء کرام ہی کے لئے ہیں اس لئے ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔

۶۔ طبع دوم کے حاشیہ میں شیخ ابو غدہ دامت برکاتہم نے احادیث کی تخریج بھی کی ہے اور تمام حوالے بقید صفحات نہایت تفصیل سے دیئے ہیں مگر احقر نے ترجمہ میں صرف وہ حوالے ذکر کئے ہیں جو طبع دوم کے متن میں درج ہیں ورنہ کتاب کا حجم بہت بڑھ جاتا۔

۷۔ معاملہ چونکہ حدیث کا ہے اس لئے ترجمہ کو الفاظ کا پابند رکھنے کا خاص اہتمام کیا ہے ربط، ترمیم یا محاورے کی مطابقت کے لئے ناگزیر اختلاف قوسین میں کئے گئے ہیں تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی بات منسوب نہ ہو جو آپ نے اس حدیث میں صراحتاً نہیں فرمائی پھر قوسین کے اضافے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت احتیاط سے کئے گئے ہیں جہاں تشریح کے لئے تفصیل ضروری تھی وہ بقدر ضرورت حواشی میں دی گئی ہے۔

الفاظ کی ایسی پابندی کے ساتھ سلیس عام فہم اور با محاورہ ترجمہ کا کام جتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا اندازہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں تاہم خامیوں کی اصلاح یا ان سے درگزر کی امید رکھتے ہوئے یہ ناچیز کوشش پیش خدمت ہے۔

۷۔ ناچیز نے اپنے حواشی میں شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کی گراں بہا تحقیقات سے جگہ جگہ استفادہ کیا ہے ایسے مقامات پر حوالہ کے لئے لفظ ”حاشیہ“ لکھ دیا ہے اس سے شیخ ابوغدہ کا عربی حاشیہ مراد ہے اور جہاں دوسری کتابوں سے مدد لی ہے ان کا پورا حوالہ دیں درج کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو شش کو شرف قبول بخشے اور ناظرین کے لئے مفید بنائے  
آمین۔

بندہ محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

خادم دارالافتاء و مدرس دارالعلوم کراچی ۱۳

ربیع الاول ۱۳۹۲ھ



يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا“ یعنی (اس زمانہ کے) تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اُن کی موت سے پہلے کر دیں گے (کہ بیشک آپ زندہ ہیں مگر نہ تھے اور آپ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں) اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اُن اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے (جنہوں نے اُن کو خدا کا بیٹا کہا تھا یعنی نصاریٰ، اور جنہوں نے ان کی تکذیب کی تھی یعنی یہود) — اور مسلم کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ (عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں) لوگوں میں باہمی عداوت اور کینہ و حسد ختم ہو جائے گا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ و مسند احمد)

۲۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور اس وقت تمہارا امام تم (امت محمدیہ) ہی میں سے ہو گا۔ (بخاری و مسلم)

۳۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت (قرب) قیامت تک حق کے لئے سر بلندی کے ساتھ برسرِ پیکار رہے گی۔ فرمایا۔ پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے نماز پڑھائیے، آپ فرمائیں گے نہیں اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے اس لئے تم (ہی) میں سے بعض بعض کے امیر ہیں (مسلم و احمد)

۴۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵۔ یہ آیت کی ایک تفسیر ہے جو حضرت ابوہریرہ کے علاوہ حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے، اس تفسیر کی رو سے حدیث ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ میں بھی اس آیت کو نزولِ عیسیٰ کی دلیل قرار دیا گیا، مگر اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی منقول ہے جو حدیث ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ کی دوسری احادیث مثلاً حدیث ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸

نے ارشاد فرمایا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابن مریم فوج الروحاء کے مقام پر حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا تلبیہ ضرور پڑھیں گے۔“

اور مسند احمد کی روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ ”عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹائیں گے، نمازوں کی امامت کریں گے اور (لوگوں کو) اتنا مال دیں گے کہ لیا نہ جائے گا، خراج لینا بند کریں گے اور رُوحاء کے مقام پر بھی) قیام کریں گے اور یہیں سے حج یا عمرہ یا دونوں کام کریں گے۔“ یہ حدیث سننا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی ”وَ اِنَّ مِنْ اٰهْلِ الْكِتَابِ الْاَلِيْمِيْنَ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَاَيُّوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا“ حضرت حنظلہ جنہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے سن کر روایت کی، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے (اس آیت کی تفسیر میں) فرمایا تھا کہ ”تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کی تصدیق کریں گے۔“ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب (تفسیر بھی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے یا ابو ہریرہؓ نے (اپنے اجتہاد سے) کہی ہے۔

یہ حدیث حاکم نے بھی روایت کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ ابن مریم حاکم عادل اور امام منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور حج یا عمرے کو جاتے ہوئے مقام فوج سے گزریں گے اور میری (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی قبر پر بھی ضرور آئیں گے، حتیٰ کہ مجھے سلام کریں گے اور میں ان کو جواب دوں گا،

۱۔ مدینہ طیبہ اور بدر کے درمیان ایک مقام جو مدینہ طیبہ سے پچھمیل پڑا ہے اسے صرف فوج اور صرف ”الرُّوحَاء“ بھی کہتے ہیں (حاشیہ) ۲۔ حدیث ۲، ۳ میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت نماز کی امامت امام مہدی کریں گے لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد کی نمازوں میں امامت کریں گے حدیث ۵ میں تفصیل وضاحت سے آئی ہے ۳۔ حدیث ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ میں خراج کی بجائے جو یہ کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ خراج بھی بند کر دیا جائے گا، جزیرہ بھی اور جو یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیکس کا فرد سے وصول کئے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں کوئی کا فر نہ ہوگا جس سے یہ وصول کئے جائیں ۴۔ اس آیت کی تفسیر حدیث ۱ کے ضمن میں گزر چکی ہے اور آگے بھی حدیث ۱۵ تا ۱۸ میں بیان ہوگی۔



(یہ حدیث سننا کہ) ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجیو! اگر تم ان کو دیکھو تو ان سے کہنا کہ ابوہریرہؓ نے آپ کو سلام کہا ہے۔

۵۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور اس کے (فتنہ کے) نشیب و فراز بتائے اس بیان سے (بوجہ خوف کے) ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، جب شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے (خوف کی) اس کیفیت کو بجا نہ پایا جو ہم پر طاری تھی، اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے (فتنہ کے) نشیب و فراز بتائے حتیٰ کہ ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے (امت محمدیہ کے) بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے (کیونکہ) اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، (لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں) اور اگر وہ

۱۔ عربی محاورے میں چھوٹے لڑکھو شہقت کے بھتیجیا کہہ دیتے ہیں، اگرچہ اس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو۔  
 ۲۔ یہ مختص فیہ درقع کا ترجمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائیں جن سے اس کا حقہ ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا (مثلاً کانہ ہونا وغیرہ) اور کچھ باتیں ایسی فرمائیں جن سے اس کے فتنہ کا علیم ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلاً اس کے حکم سے بارش ہونا اور قحط پڑنا وغیرہ، اور مختص فیہ درقع کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کے اس تذکرے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کبھی نیچی کرتے تھے کبھی اونچی، اس صورت میں اشارہ اس طرف ہو گا کہ یہ بیان دیر تک ہماری رہا اور آپ نے اسے بہت اہمیت اور تفصیل سے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایسی ہی حالت میں آواز کبھی پست اور کبھی بلند ہوتی ہے۔  
 ۳۔ وہ دوسری چیز ایک اور مستند حدیث میں بیان کی گئی ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لئے دجال سے زیادہ خوفناک چیز دوسری ہے اور وہ ہیں مگر لکن لیڈر اور سربراہ (حاشیہ)

اُس زمانہ میں نکلا جب کہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا (یعنی میری وفات کے بعد نکلا) تو ہر مردِ مسلم اپنا دفاع خود کرے گا، میرے بعد اللہ (تو) ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی۔

(دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو) وہ جوان ہوگا، بالِ سخت سچیدہ ہوں گے اس کی آنکھ بے نور ہوگی، میرے خیال میں جو عبد العزیز بن قطن کے مشابہ ہوگا، تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پر ٹھوڑے۔ وہ شام عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں (ہر طرف) فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ! وہ دنیا میں کتنے عرصے رہے گا؟ آپ نے فرمایا: چالیس روز، (جن میں سے) ایک دن ایک سال کی برابر، اور ایک دن ایک مہینہ کی برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کی برابر ہوگا، اور باقی آیام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ! جو دن ایک سال کی برابر ہوگا اس میں ہمارے لئے کیا ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں (بلکہ) تم ہر وقت نماز کے لئے اس کی مقدار کا

لے یہ طافیۃ کا ترجمہ ہے جس میں فاء کے بعد ہمزہ ہے اور بعض مستند روایات میں طافیۃ زفا کے بعد یا ہے جس کے معنی ہیں ”بھری ہوئی، باہر کو نکلی ہوئی“ علامہ نوویؒ کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور حاصل یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی ایک آنکھ بے نور (طافیۃ) ہوگی اور ایک آنکھ انکوڑی طرح باہر کو بھری ہوئی (طافیۃ) ہوگی۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جو متعدد احادیث مختلف الفاظ سے آئی ہیں ان سے علامہ نوویؒ کی اس تحقیق کی تائید ہوتی ہے۔ نیز آگے حدیث ۲۵ میں بھی صراحت ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانٹا ہوگا اور دائیں آنکھ باہر کو بھری ہوئی ہوگی اور اتنی صراحت حدیث ۲۶ میں بھی ہے کہ اس کی بائیں آنکھ مسح ہوگی یعنی ایسی بے نور ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کر اس کا نور بجھا دیا ہو۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جو زمانہِ جاہلیت میں مر گیا تھا (حاشیہ) ۳۷ مسند احمد کی روایت میں صراحت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات محفوظ رکھے گا فقیہ دجال سے محفوظ رہے گا، ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری دس آیات کے باقی بھی ارشاد ہوا ہے اسی لئے علامہ طیبی نے فرمایا ہے کہ دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس یا آخری دس آیتیں یاد رکھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا (حاشیہ)

اندازہ کر لیا کرنا

ہم نے کہا یا رسول اللہ زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ فرمایا بارش (کے اس بادل) کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پس وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ (نباتات) اُگائے گی، چنانچہ ان کے مولیٰ (دانٹ وغیرہ جو صبح چرتے گئے تھے) شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کون خوب ادب نچے، تھن لبریز اور کون کھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آکر ان کو (اپنے باطل دعوے کی طرف ہلانے کا، وہ اُسے رد کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا مگر یہ لوگ صبح کو اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ اور دجال ایک دیران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا "اپنے خزانے اُگل دے" تو زمین کے خزانے اُگل کر، اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔

پھر وہ ایک پُر شباب نوجوان کو بلائے گا اور اُسے تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانہ کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا پس نوجوان (زندہ ہو کر) ہنستا ہوا پُر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی (قسم کے) حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا (جن کی

۱۰ یعنی جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں ظہر تک ہوتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لو، پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو مغرب پڑھ لو، اسی طرح عشاء اور فجر پھر پھر عصر پھر مغرب، اسی طرح اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہو یہاں تک کہ وہ عجیب و غریب دن ختم ہو جائے۔ (حاشیہ بحوالہ نودی)

تفصیل یہ ہے کہ، وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید منارے کے پاس نزول فرمائیں گے، اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑوں میں (ملبوس) ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے، جب سر جھکائیں گے تو اس سے (پانی کے) قطرات ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح (چمکدار) اور موتیوں کی طرح (سفید) ہوں گے۔ آپ کے سانس کی ہوا جس کا فرک لگے گی اسی وقت مرجائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام وصال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ اُسے لُٹھ کے دروازے پر جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔

پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے وصال (کے دھوکہ و فریب) سے محفوظ رکھا ہوگا، تو آپ ان کے چہروں سے (بخار و سفر یا آثار رنج و مصیبت کو) پوچھ دیں گے، اور جنت میں ان کے درجات (عالیہ) کی خوش خبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے ایسے بندوں (یا جوج) کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہذا آپ میرے خاص بندوں (مؤمنین) کو کوہ طور پر جمع کر لیجئے (عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے)

۱۵ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ نے حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں ”دمشق کے مشرقی جانب“ کی بجائے ”بیت المقدس“ کا لفظ ہے اور ایک روایت میں ”اردن“ اور ایک روایت میں مسلمانوں کی لشکر گاہ کا ذکر ہے کہ وہاں نازل ہوں گے، علامہ علی قاری نے ”بیت المقدس“ کی روایت کو ترجیح دی ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آج کل بیت المقدس میں کوئی سفید منارہ نہ بھی ہو تو اس وقت تک ضرور بن جائے گا (حاشیہ)

۱۶ فلسطین کا یہ مقام آج کل اسرائیل (یہودیوں کے قبضت میں ہے) اس مقام پر یہودیوں کا ایئر پورٹ ہے اور لڈ ہی کے نام سے مشہور ہے ۱۲ مترجم

اور اللہ تعالیٰ یا جوج اور ماجوج کو (اتنی بڑی تعداد میں) بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے (اڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث) پھسلتے ہوئے (معلوم) ہوں گے۔  
جب ان کا پہلا حصہ بجزیرہ طبرستان سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کسے گا یہاں کبھی پانی تھا۔

اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور میں) محصور ہو جائیں گے، (اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث) یہ نوبت آجائے گی کہ ایک میل کے سر کو سو دینار (اشرفیوں) سے بہتر سمجھا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پس اللہ ان کے اوپر (وہابی صورت میں) ایک کپڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔

۱۵ یہ انسانوں ہی کے دہرے دہرے وحشی قبیلوں کے نام ہیں، قرآن حکیم میں ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں آیا ہے اور احادیث صحیحہ میں ان کی بعض تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ البتہ ان کے موجودہ محل وقوع کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی تاہم علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی تفسیر "محاسن التاویل" میں بعض محققین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ داغستان، قفقاز یعنی کوہ قاف کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے پیچھے دو قبیلے پائے جاتے تھے ان میں سے ایک کا نام "آقو" اور دوسرے کا نام "ماقوق" تھا، پھر عرب ان کو "یا جوج" اور "ماجوج" کہنے لگے۔ یہ دونوں قبیلے بہت سی امتوں میں معروف ہیں اور ان کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں بھی آیا ہے، پھر ان دونوں قبیلوں کی نسل ہی سے روس اور ایشیا کی بہت سی قومیں پیدا ہوئیں (حاشیہ) احقر مترجم عرض کرتا ہے کہ جغرافیہ کے مشہور مسلمان عالم شریف ادیبی (متوفی ۱۲۵۶ھ) نے جو دنیا کا نقشہ تیار کیا تھا اس میں بھی یا جوج ماجوج کا محل وقوع مشرق اقصیٰ کے بالکل آخری کنارے پر شمال کی جانب دکھایا ہے۔ ان کے اور دنیا کی باقی آبادی کے درمیان طویل پہاڑی سلسلہ حائل ہے، صرف ایک راستہ نقشہ میں دکھایا ہے جہاں پہاڑ نہیں ہیں، اس علاقہ کے مغرب اور جنوب میں جو بستیاں اس نقشہ میں دکھائی گئی ہیں ان کے نام یہ ہیں رطوان، خرقان، شندران، منخشان، نجد، خاقان۔ واللہ اعلم بالصواب رتبہ ۲۷ اردن کا ایک مشہور دریا جوسیت المقدس سے تقریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہے۔ بمعجم البلدان یا قوت الحموی۔

پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (جہل طور سے) زمین پر اتریں گے تو انھیں زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جسے یا جوج و ما جوج (کی لاشوں) کی چکنائی اور تعفن نے جبر نہ دیا ہو اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (پھر) اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجہ میں اللہ ایسے لبرطے لبرطے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں سختی اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔

پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چرٹے کا کوئی خیمہ (یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خاندان بدوش خیموں میں رہتے ہیں) یہ بارش زمین کو دھوکہ آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔

پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اٹکا اور اپنی برکت از سر نو ظاہر کر دے، چنانچہ اس زمانہ میں ایک انار داتا بڑا موگا کہ اُسے، آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی اور اُس کے پھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ د... والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلہ کے لئے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔

لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار موہا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیرین حصے میں اتنا اندازہ کر کہ زمین اور مسلمان کی روح قبض کر لے (نئے) کا سبب بنے گی، اور (دنیا میں صرف) بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح (کھلم کھلا) زنا کیا کریں گے، چنانچہ قیامت انہی بدترین انسانوں پر لے گی۔

(مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، حاکم، کنز العمال و ابن عساکر)

۶۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جمال میری امت میں نکلے گا، پس وہ چالیس... رہے گا

۱۰۔ لمبی گردن والے اونٹوں کی ایک قسم جسے عربی میں محبت کہتے ہیں۔

مجھے نہیں معلوم کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجالیس دن (فرمایا) یا  
 چالیس مہینے، یا چالیس سال — پس اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا جو مؤثرۃ  
 ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ اور اُسے (دجال کو) تلاش کر کے ہلاک کر ڈالیں  
 گے۔ پھر لوگ سات سال اس حالت میں گزاریں گے کہ کسی بھی دود کے درمیان  
 عداوت نہ پائی جائے گی، مسلم، احمد، درمنثور، بحوالہ مستدرک حاکم وکنز العمال،  
 بحوالہ ابن عساکر)

۷۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم انماقیہ یا وابق“  
 کے مقام پر پہنچ جائیں گے ان کی طرف مدینہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا، جو  
 اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ  
 ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کئے گئے ہیں (اور اب مسلمان ہو چکے  
 لے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو یا وہیں رہا اس لئے اپنی لاطمی کا اظہار فرمانا ضروری تھا  
 در نہ حدیث ۱۵ میں حضرت تو اس بن سمان کے بیان میں صراحت اچکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے ”ہجالیس دن“ فرمایا تھا جن میں سے ایک دن ایک سال کی برابر، اور ایک دن ایک مہینے کی برابر  
 اور ایک دن ایک ہفتہ کی برابر ہوگا اور باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔

۱۵ ایک حلیل القدر صحابی ۱۵ راوی حدیث کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 لفظ اعماق فرمایا تھا یا وابق اور اعماق اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد اس سے ”عمق“ ہے اور ”عمق“  
 ایک مقام کا نام ہے جو ”وابق“ کے قریب اور حلب انطاکیہ کے درمیان واقع ہے اور ”وابق“ ایک  
 بستی کا نام ہے جو حلب کے قریب عزاز کے علاقے میں بیان کی گئی ہے وابق اور حلب کے درمیان  
 چار فرسخ کا فاصلہ ہے (حاشیہ بحوالہ معجم البلدان للمحوی) ۱۵ حدیث میں لفظ ”المدینہ“ ہے  
 جس سے مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن عربی میں چونکہ ”مدینہ“ کا لفظ ہر شہر کے لئے استعمال  
 ہوتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے یہاں اس سے شام کا مشہور شہر ”حلب“ ہی مراد ہو کیونکہ اعماق اور  
وابق کے قریب یہی بڑا شہر ہے اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیت المقدس مراد ہے (حاشیہ) واللہ اعلم

ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو ہم ان سے جنگ کریں گے مسلمان کہیں گے کہ نہیں  
واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالہ نہیں کریں گے“ اس پر وہ ان سے جنگ  
کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو ہٹا کر کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول  
نہ کرے گا (یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی) اور ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو  
اللہ کے نزدیک افضل الشهداء (بہترین شہید) ہوں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان  
فتح حاصل کر لیں گے (جس کے نتیجے میں) یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں  
گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطینیہ فتح کر لیں گے، اور اپنی  
تلاویں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں  
گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا **المسیح** (دجال) تمہارے پیچھے تمہارے  
گھر والوں (بستیوں) میں گھس گیا ہے۔

یہ سنتے ہی یہ لشکر (دجال کے مقابلہ کے لئے قسطنطینیہ) سے روانہ ہو جائے گا۔  
اور یہ خبر (اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا  
ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ  
نازرفجر کی اقامت ہو جائے گی اور فوراً ہی بعد علی بن مریم نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں

۱۔ ترکی کا مشہور شہر جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے (حاشیہ بحوالہ معجم البلدان)  
۲۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مگر یہ لفظ جب دجال کے لئے استعمال ہو تو اس کے ساتھ لفظ  
دجال ملا کر ”مسیح دجال“ کہتے ہیں شاذ و نادر صرف ”مسیح“ بھی کہہ دیتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہے  
اور دجال کو مسیح کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ”مسیح العین“ ہوگا یعنی اس کی داہنی آنکھ ایسی بے نور  
ہوگی جیسے اُسے کسی نے پونچھ کر صاف کر دی ہو اور دوسری متعدد وجوہ علماء نے لکھی ہیں جو اسی کتاب  
(التقریح) کے عربی حاشیہ میں دیکھی جاسکتی ہیں

۳۔ حدیث کے لفظ قائم کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ ”پس آپ ان کی امامت فرمائیں گے“ اب اس کے مطلب  
ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ”اب آپ مسلمانوں کی قیادت اور امارت کے فرائض انجام دیں گے“ اس میں تو کوئی  
اشکال ہی نہیں دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ”اب آپ نازمیں ان کی امامت کریں گے“ اس پر اشکال ہوتا ہے  
بقیہ حاشیہ ص ۵۶



کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن (و جہاں) عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اُسے پھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ہاتھ سے قتل کریں گے، اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے حربہ میں لگ گیا ہوگا۔  
(صحیح مسلم)

۸۔ حضرت ابوحنذلیہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو حاضرین نے کہا قیامت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جب تک تم دس علامات نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی پس آپ نے یہ (دس علامات) بیان فرمائیں (مخبران دھواں

بقیہ حاشیہ ص ۵۵) حدیث میں گزر چکا ہے کہ نزول کے وقت نماز کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ امام مہدی کریں گے، اس اشکال کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جس کی طرف ہم نے من کے ترجمہ میں قوسین کی عبارت برطھا کر اشارہ کر دیا ہے کہ امامت فرمانے سے مراد امامت کا حکم دینا ہے کیونکہ عربی وارد میں بخیرت کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے فلاں شخص کو قتل کر دیا اور مراد یہ ہوتا ہے کہ قتل کا حکم دیا، اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہلی نماز کے بعد آئندہ نمازوں کی امامت مراد ہے

یعنی آئندہ نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، اگرچہ نزول

کے وقت نماز کی امامت امام مہدی کریں گے۔ یہ بات حدیث ۲، ۱۴ میں بھی بیان ہو چکی ہے ۱۲ ربیع حاشیہ ص ۵۵) حانظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کی روایا اور دوسری مستند احادیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ دھواں قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور فرمایا کہ قرآن حکیم میں سورہ دخان کی اس آیت میں اسی دھواں کی خبر دی گئی ہے کہ قَارِئَتْ رَبَّ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَفْخِمُ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (یعنی آپ کفار کے لئے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان سے ایک نظر کرنے والا دھواں آجائے جو ان پر بھج جائے گا یہ ایک دردناک عذاب ہوگا) تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ دھواں نکلے گا تو مومن کو تو صرف زکام سانس ہوگا لیکن کفار اور منافقین کے کانوں میں گھس جائے گا جس سے ان کے سر ایسے سخت گرم ہو جائیں گے جیسے انھیں آگ پر بھون دیا گیا ہو، دخان کی تفسیر دوسرے متعدد صحابہ کرام سے بھی منقول ہے بعض نے فرمایا ان کی ہے بعض نے موقوفاً (حاشیہ)

دیوال، دایہ یعنی داہنے الارض جو نہایت عجیب و غریب جانور ہوگا۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یا جوج ماجوج اور زمین میں دھنس جانے کے تین

لہ قرآن حکیم (سورہ نمل) میں جو ارشاد ہے وَإِذْ أَوْقَعْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ  
 نیک سمجھو یعنی جب وعدہ قیامت کا ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا یعنی قیامت کا زمانہ قریب آچینچے گا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے ہاتیں کرے گا، اس آیت میں اسی داہنے الارض کی خبر دی گئی ہے۔ علامہ قرطبی نے روایات کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصہ کے بعد جب دوبارہ اللہ کی نافرمانی اور کفر و نیامی پھیلنے لگے گا اور دین اسلام کے اکثر حصے پھیل ترک کر دیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو زمین سے نکالے گا جو محسوس کو کا فر سے متاثر کرے گا تاکہ کفار کفر سے اور فاسق اپنے فسق سے باز آجائیں، پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا اور لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی مگر جب وہ اپنی کسر پراٹے رہیں گے تو آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آجائے گا جس کے بعد کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت آجائے گی اس بیان کا حاصل یہ ہے کہ داہنے الارض کا واقعہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پیش آئے گا۔ مگر حکم رضا صاحب مستدرک نے راجح اس کو قرار دیا ہے کہ داہنے الارض اس کے بعد نکلے گا۔ حاصل یہ کہ پہلے یا بعد میں ہونے کے بائیں علماء کے دو قول ہیں۔ واللہ اعلم (حاشیہ مخلصا) لہ یہ علامت بھی قرآن حکیم (سورہ انفص) آیت ۵۹ میں بیان کی گئی ہے یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَذْكَبَتْ فِي أَيَّمَانِهَا خَيْرًا (یعنی جس روز آپ کے رب کی ایک بڑی نشانی آچینچے گی اس روز کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا ایمان تو پہلے سے رکھتا ہو لیکن اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ گناہوں میں مبتلا رہا ہو، چنانچہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آجائے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو پس جب لوگ طلوع ہوتے ہی دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے (جو قبول نہ ہوگا) اسکے بعد حضرت علیؓ نے یہی مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے (حاشیہ) لہ قیامت کی اس علامت کو بھی قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت ۱۰۱ میں ارشاد ہے حَتَّىٰ إِذَا فُجِّعَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدِيدٍ يَنْبَسُونَ وَانْتَوَبَ أَلْقَوْا الْحِجَابَ (یعنی حتیٰ کہ جب یا جوج ماجوج کو کھو لیا جائے گا اور وہ ہرطنڈی سے تیز رفتاری کے ساتھ آئیں گے اور پچا وعدہ نہ دیکھیں پچھا ہوگا۔ الخ)

بڑے بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور ان سب کے آخر میں ایک آگتین سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ (مسلم و ابو داؤد و الترمذی، وابن ماجہ)

۹۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی۔ اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ (نسائی کتاب الجہاد، و مسند احمد اور کنز العمال بحوالہ "المختارۃ" و مجمع الزوائد بحوالہ اوسط طبرانی یہ حدیث امام نسائی کی شرائط کے مطابق صحیح ہے)۔

۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ ان کا قد و قامت میاں اور رنگ سُرخ و سفید ہوگا بلکہ زور رنگ کے دو کپڑوں میں ہوں گے۔ سر کے بال اگر چہ بھیکے نہ ہوں تب

۱۔ محشر جمع کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مسند احمد، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور مستدرک حاکم میں صراحت ہے کہ محشر سے مراد ملک شام ہے کیونکہ اس ملک سے بھاگ کر مومنین ملک شام میں پناہ لیں گے ان روایات کی تفصیل عربی حاشیہ میں ملاحظہ کیجئے جو سب مرفوع اور مستند ہیں۔

۲۔ ہندوستان پر سب سے پہلا جہاد تو پہلی صدی ہجری میں محمد بن قاسم نے کیا جس میں بعض صحابہ اور اکثر تابعین کی شرکت نقل کی جاتی ہے اور اس کے بعد سے آج تک مختلف زبانوں میں ہندوستان کے کفار کے خلاف جہاد سہمہ ہے میں لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں ہندوستان پر جہاد کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اس کے خلاف جہاد ہے یا جتنے جہاد چکے یا آئندہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہیں؟ الفاظ حدیث میں نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ عام ہیں اس کو کسی خاص جہاد کے ساتھ مخصوص و تنقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے جتنے جہاد ہندوستان کے خلاف مختلف زمانوں میں ہوتے رہے یا آئندہ ہوں گے انشاء اللہ وہ سب اکبر علیہ السلام کی بشارت میں شامل ہیں، واللہ اعلم۔ مدینح

بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے، ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ لینا بند کر دیں گے! اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا، اور (انہی کے ہاتھوں) مسیح و جلال کو ہلاک کرے گا، پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہ کر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

ابوداؤد، وابن ابی شیبہ، و مسند احمد، و صحیح ابن حبان، و ابن جریر

۱۱۔ - مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ابن مریم و جلال کو باب لُد پر قتل کریں گے، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے اور مسند احمد میں یہ حدیث چار سندوں سے آئی ہے۔ ایک سند میں یہ الفاظ ہیں کہ ”باب لُد کی جانب میں قتل کریں گے“

۱۲۔ - ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جب تک عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی پس (وہ نازل ہو کر) صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور مال (پانی کی طرح) بہائیں گے، حتیٰ کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔

(ابن ماجہ و مسند احمد)

۱۳۔ - حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس کا اکثر حصہ حدیث و جلال پر مشتمل تھا آپ نے یہیں

لے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامات یہ بیان فرمائی تھی میں ”رَجُلٌ أَدَمٌ

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنْ أَدَمِ الرَّجُلِ سَيُطَلِّعُ الشَّعْرَ لَهُ لَيْتَةً كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنْ اللَّيْتِمِ لَصُوبِ لَيْتَتِهِ

بَيْنَ مَكْبِيهِ يُعْقَدُ رَأْسُهُ مَاءً دَبْعَةً أَحْمَرَ كَأَنَّهَا خَدَجٌ مِنْ دِيَمَاسٍ مِثْقَالِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَابَتْ حَمِيمٌ كَنْزِيكَ

کے ہونگے بال بہت گھنگرائے نہیں ہونگے، بالوں کی لمبائی شانوں تک ہوگی سر سے پانی ٹپکتا ہوگا معتدل جسم ست

کے ہونگے سرخی نال رنگ ہوگا جیسے ابھی تمام سے غسل کر کے، آئے ہوں (رعبی حاشیہ بر حدیث ۵)

اس سے خبردار کیا اسی سلسلہ میں آپ نے فرمایا کہ

”جب سے اللہ نے ذریتِ آدم کو پیدا کیا دنیا میں کوئی فتنہ و مجال کے فتنہ سے بڑا نہیں ہوا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو مجال سے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، (اس لئے) وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا، اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نکلے گا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلے گا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا، وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں (بہ طرف) فساد پھیلائے گا، اسے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا میں تمہارے سامنے اُس کی وہ علامات بیان کئے دیتا ہوں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں (مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظر آجائیں گی جن سے اُس کے دعوے کی تکذیب کی جاسکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں،) اور (دوسری یہ کہ) وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں،) تیسری یہ کہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”کافر“ لکھا ہوگا جو ہر مؤمن پر ظہ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی۔ پس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو اس کو چاہئے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورۃ کہف کی

لے یعنی یا تو مجال کے سحر اور نظر بندی کی وجہ سے وہ لوگوں کو برعکس دکھائی دے گی کہ باہر سے دیکھنے والا آگ کو جنت اور جنت کو آگ سمجھے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طے سے اس کی جنت کو باطنی طور پر آگ بنا دیگا اور آگ کو باطنی طور پر جنت بنا دے گا (حاشیہ بحوالہ فتح الباری)

ابتدائی آیات پر پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لئے اسی طرح ٹھنڈی اور بے ضرر ہو جائے گی جس طرح ابراہیم (علیہ السلام) پر ہو گئی تھی۔

اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ ”اگر تیرے (مردہ) ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں (میں) شہادت دوں گا اِس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی پیروی کر یہ تیرا رب ہے۔

اُس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اُسے (اللہ کی طرف سے مؤمنین کی آزمائش کے لئے) ایک (مومن) شخص پر قدرت دی جائے گی پس وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور اُسے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ ڈال دے گا، پھر (لوگوں سے) کہے گا دیکھو میرے اس ”بندے“ کی طرف میں اسے ابھی زندہ کروں گا اور یہ پھر کہے گا کہ اِس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرمادیں گے اور نصیبت (دجال) اس سے کہے گا ”بتا تیرا رب کون ہے؟“ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے، خدا کی قسم (تیرے دجال ہونے کا) جتنا یقین مجھے آج ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔

اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برساتی گے اور زمین کو اُگانے کا حکم دے گا تو وہ اُگائے گی۔

اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گذر ایک بستی پر ہوگا، بستی کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گذرے گا وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برساتیں گے اور زمین کو اُگانے کا حکم دے گا تو وہ اُگائے گی، حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب اُن کے مویشی پرانے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب ٹٹے اور فریب ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔

مکہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کے پاؤں تلے نہ آیا ہو اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو، البتہ جس درہ سے بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے گا فرشتے ننگی تلواریں لئے اس کے سامنے آجائیں گے، (اور وہ آگے بڑھنے کی جرأت نہ کر سکے گا) چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پرٹاؤ ڈال دیگا، اب مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد و عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے چاملے گا (ان زلزلوں کے ذریعہ، مدینہ طیبہ گندگی (منافقوں) کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی دھونکنی (جس سے آگ کو ہوادی جاتی ہے) کو ہے کا رنگ دور کر دیتی ہے) (اسی لئے) اس دن کو "یوم نجا" کہا جائے گا۔

(یہ حالات سن کر) ام شریک بنت ابی العسر (ایک جلیل القدر صحابیہ) نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عرب اس زمانہ میں کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب اس زمانہ میں تھوڑے ہوں گے، اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے، ان کا امام (پیشوا) ایک مرد صالح ہوگا (اور ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ) ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے، چنانچہ امام پیچھے بیٹھے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لئے عیسیٰ (علیہ السلام) کو آگے کرے مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے۔ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لئے ہوئی ہے، لہذا اس وقت) مسلمانوں کو ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔

جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے "دروازہ کھولو"

لے مقصد سوال کا یہ تھا کہ عرب تو نہایت بہادری اور جہاد سے اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دجال کو اتنا فساد پھیلانے کا موقع کیسے مل جائے گا؟ بلکہ اسے نماز باجماعت کا ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی امامت کا اہل شخص نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ جائے اور اقامت پڑھی جاوے اس وقت کوئی اس سے افضل شخص آجائے تو اس افضل کو چاہئے کہ پہلے امام کے بلانے کے باوجود آگے نہ بڑھے اور پہلے امام ہی کے پیچھے نماز پڑھے۔ ۱۲

دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور ساج (ایک قیمتی دبیر کپڑے) کا لباس ہوگا، جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھٹنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور بھاگ کھڑا ہوگا، عیسیٰ (علیہ السلام) اس سے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لئے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بکل نہیں سکتا، چنانچہ وہ اُسے ”لُد“ کے مشرقی دروازے پر جالیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا، اور اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی پھیننا چاہے گا خواہ پتھر ہو یا درخت، دیوار ہو یا جانور، اللہ اُسے گویائی عطا فرمادے گا، اور وہ پکارے گی کہ ”اے مسلمان بندہ خدا یہ یہودی ہے، اگر اسے قتل کر ڈال لاؤ اور اسی حدیث میں چند سطروں کے بعد ہے کہ

اور عیسیٰ علیہ السلام (سرکاری طور پر) زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، پس نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی (کیونکہ سب مالدار ہوں گے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے گا) و بعض عداوت ختم ہو جائے گی، اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ گزند نہ پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا مٹا اپنے ہاتھ سے کھولے گی تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیرا یا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا، زمین امن امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے اور کلمہ (سب کا) ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ الخ

(ابن ماجہ، ابوداؤد، وابن خزیمہ والحاکم)

۱۵ اللہ ہی جانتا ہے کس چیز کا دروازہ مراد ہے؟ شیخ ابوالفتح ابو غدہ غلام نے اپنے حاشیہ میں مسجد کا دروازہ مراد لیا ہے ۱۲ آگے اس حدیث میں مزید تفصیلات میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بقصد اختصار آخری حصہ ذکر نہیں فرمایا جن حضرات کو شوق ہو وہ اس کتاب کے شامی ایڈیشن میں یہ حصہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو ناشر نے اس میں شامل کر دیا ہے ۱۲



۱۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شبِ معراج میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) سے ملاقات کی تو وہ قیامت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پس انھوں نے اس معاملہ میں ابراہیم (علیہ السلام) سے رجوع کیا (کہ وہ وقتِ قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں)، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ”مجھے اس کا کوئی علم نہیں“ پھر حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا تو انھوں نے بھی فرمایا کہ ”مجھے اس کا کوئی علم نہیں“ پھر حضرت عیسیٰ کی طرف رجوع کیا تو انھوں نے فرمایا جہاں تک وقتِ قیامت کا معاملہ ہے تو اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، یہ بات تو اتنی ہی ہے، البتہ جو عہد پروردگار عزوجل نے مجھ سے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جہاں نکلے گا اور میرے پاس دو بار ایک سی نرم تلواریں ہوں گی پس وہ مجھے دیکھتے ہی رانگ (یا سیسہ) کی طرح گھٹنے لگے گا۔ پس اللہ اس کو ہلاک کریگا یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ اے مردِ مسلم میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے، اگر اُسے قتل کر دے، چنانچہ اللہ ان سب (کافروں) کو ہلاک کر دے گا۔

پھر لوگ اپنے اپنے شہروں اور وطنوں کو واپس ہو جائیں گے تو اُس وقت یا جو جہاں ماجوج نکلیں گے جو کثرۃ اور تیز رفتاری کے باعث ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، جس چیز پر اُن کا گذر ہوگا اس کا خاتمہ کر دیں گے، جس پانی (نہر، چشمہ، کنویں یا دریا وغیرہ) سے گزریں گے اُسے پی کر ختم کر دیں گے۔ پھر لوگ میرے پاس آکر اُن کی شکایت کریں گے، میں اللہ سے ان کے بارے میں بددعا کروں گا۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا اور مار ڈالے گا حتیٰ کہ زمین ان کی بدبو سے متعفن ہو جائے گی، اب اللہ عزوجل بارش برسائے گا جو ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔

(راوی فرماتے ہیں کہ آگے اس حدیث کا کچھ حصہ میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک دوسرے راوی یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ پوری بات یہ تھی کہ) پھر سپاڑ و صحن دیئے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی (مادی) دی جائے گی، (پھر اصل راوی کہتے ہیں کہ) عیسیٰ

علیہ السلام نے فرمایا ”پس جن امور کا عہد میرے رب نے مجھ سے کیا ہے اُن میں یہ بھی ہے کہ جب ایسا ہو چکے تو قیامت کا حال پورے دنوں کی اُس کا بھن (حاملہ) کی طرح ہوگا جس کے مالک نہیں جانتے کہ وہ دن یا رات میں کب اچانک سچے دیدگی (مسند احمد، حاکم، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، فتح الباری، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، بیہقی، الدر المنثور)۔

۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انبیاء باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں، کہ ان سب کا دین ایک (رأیس) (شرعیات) جدا جدا ہیں اور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، — وہ نازل ہوں گے جب تم انھیں دیکھو تو پہچان لینا، (ان کی پہچان یہ ہے) وہ درمیانہ قد و قامت کے ہوں گے، رنگ سُرخ و سفید ہوگا، بال سیدھے اور ایسے (صاف اور چمکدار) ہوں گے کہ وہ اگرچہ بھیگے نہ ہوں تب بھی یوں معلوم ہوگا جیسے ابھی اُن سے پانی ٹپک رہا ہو۔ بلکہ زرد رنگ کے دکڑے پلوں میں ہوں گے، پس وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، تمام ملتوں کو معطل کر دیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اُن کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب کا خاتمہ کر دے گا، اور اللہ ان کے زمانہ میں کذاب مسیح و جال کو ہلاک کرے گا اور زمین میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا، حتیٰ کہ ادنٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیرٹے بکریوں کے ساتھ ایک جگہ چرائیں گے۔ بچے اور لڑکے سانپوں سے کھلیں گے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے گا،

پس عیسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انھیں دفن کریں گے (مسند احمد)

۱۶۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (جس کی تفصیل)

۱۷۔ دین کو باپ سے اور شریعت کو ماں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ اصل دین یعنی عقائد سب انبیاء کے ایک تھے، البتہ شریعت یعنی فقہی مسائل مختلف امتوں میں مختلف رہے اور ف

ابو نضرہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے روز عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے پاس اس عرض سے آئے کہ اپنا ایک نسخہ (جو حدیث یا قرآن حکیم کا تھا) ان کے نسخہ سے ملا کر دیکھیں (کہ ہمارے نسخہ میں کوئی غلطی تو نہیں) پس جب جمعہ کا وقت ہوا تو انھوں نے ہمیں غسل کرنے کا حکم دیا، غسل کے بعد ہمارے پاس خوشبو لائی گئی وہ لگا کر ہم مسجد چلے گئے اور وہاں ایک شخص کے پاس جا بیٹھے جس نے ہمیں دجال کے بارے میں حدیث سنائی۔

پھر عثمان بن ابی العاصؓ آئے تو ہم اُٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ اب انھوں نے عثمان بن ابی العاصؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کے تین شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک شہر تو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر واقع ہوگا ایک شہر حیرہ کے مقام پر ہوگا اور ایک شہر تنام میں ہے تین بار (ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ گھبرا اُٹھیں گے پھر جلد ہی لوگوں کے برابر میں دجال نکل آئے گا، پس وہ مشرق کی طرف کے لوگوں کو شکست دیدے گا، اور سب سے پہلے اس شہر میں وارد ہوگا جو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ واقع ہے اور اہل شہر کے تین گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ یہ کہہ کر رہیں رہ جائے گا کہ دیکھیں دجال کون ہے اور کیا کرتا ہے، اور ایک گروہ وہیہات میں منتقل ہو جائے گا، اور ایک گروہ برابر والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، اس وقت دجال کے ساتھ ستر ہزار آدمی ہوں گے جن کے اوپر طیلسان (ایک خاص قسم کی عجمی و بیڑ چادر) ہوگی، اس کے اکثر شیر و عورتیں اور یہودی ہوں گے، پھر دجال اس شہر کے قریب والے

۱۵ بظاہر بحر روم اور بحر فارس مراد ہیں (حاشیہ) ۱۶ حیرہ عراق کا وہ علاقہ ہے جس کے قریب ہی صحاح کے دور میں شہر کو ذآباد ہوا (حاشیہ بحوالہ معجم البلدان)۔

۱۷ آج کل صرف ”سودیہ“ کو شام کہا جاتا ہے جس کا دار الحکومت ”دمشق“ ہے لیکن پہلے ملک شام بہت بڑا تھا، طول میں دریائے فرات (عراق) سے العرش تک (جہاں مہر شروع ہوتا ہے) اور عرض میں جزیرہ نمائے عرب سے بحر روم تک پھیلا ہوا تھا، اردن، فلسطین، لبنان، موجودہ سودیہ، دمشق، بیت المقدس، طرابلس، انطاکیہ سب اسی کے حصے تھے (معجم البلدان لیاقوت ص ۱۲، ج ۱) لہذا احادیث میں شام سے اصل ملک شام مراد ہے صرف سودیہ نہیں۔ رفیع۔

شہر میں آئے گا، اس شہر کے باشندوں کے (بھی) تین گروہ ہوجائیں گے، ایک گروہ کیسکا کہ ”دیکھیں دجال کون ہے اور کیا کرتا ہے، اور ایک گروہ دیہات میں چلا جائے گا، اور ایک گروہ قریب والے اس شہر میں چلا جائے گا جو شام کی مغربی جانب میں ہوگا۔ اور (بالآخر) مسلمان اہل ایمان کی طرف سمٹ جائیں گے، اور اپنے مویشی (چرنے کے لئے) بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہوجائیں گے، ان کو یہ نقصان بہت شاق گذرے گا، اور شدید بھوک اور سخت مشقت میں مبتلا ہوجائیں گے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھائیں گے یہ اسی حال میں ہوں گے کہ سحر کے وقت کوئی پکارنے والا تین بار یہ آواز نکائے گا کہ ”اے لوگو تمہارے پاس فریاد رس آپہنچا“ یہ سن کر لوگ آپس میں کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے آدمی کی آواز ہے!

اور نماز فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا ”یا روح اللہ آگے آکر نماز پڑھاؤ“ وہ فرمائیں گے کہ اس امت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں (اس لئے تم ہی نماز پڑھاؤ) پس مسلمانوں کا امیر آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا، پس عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر اپنا حربہ سنبھالیں گے اور دجال کی طرف روانہ ہوجائیں گے دجال ان کو دیکھتے ہی راتگ کی طرح کچلنے لگے گا، پس عیسیٰ علیہ السلام اپنا حربہ اس کے سینہ کے بیچوں بیچ مار کر اُسے قتل کر ڈالیں گے اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں گے، اُس دن ان میں سے کسی کو بھی کوئی چیز اپنے پیچھے نہیں چھپائے گی، حتیٰ کہ درخت کہے گا ”اے مومن یہ کافر ہے“ اور پتھر کہے گا ”اے مومن یہ کافر ہے“۔ (مسند احمد، ابن ابی شیبہ، طبرانی، حاکم، والدر المنثور)

۱۷۔ حضرت سمرقہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی جس میں انھوں نے فرمایا کہ ”پھر آپ نے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) کسوف شمس کی نماز سے فارغ ہو کر، سلام پھیر دیا، پس آپ نے اللہ کی حمد

۱۔ یہ دو میل لمبی گھاٹی اردن میں واقع ہے (حاشیہ بحوالہ معجم البلدان لیاقوت)

۱۷۔ سورج کا گرہن ہونا ۱۲

دشنام فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا کہ:

اے لوگو! میں بشارتوں اور اللہ کا رسول ہوں، لہذا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں  
اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میں نے اپنے رب کی تبلیغ رسالت میں کوئی کوتاہی کی ہے تو  
تم نے مجھے اس کی اطلاع نہیں دی تاکہ میں تبلیغ رسالت اس طرح کرتا جس طرح کہ  
کرنی چاہئے اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تبلیغ رسالت کر دی ہے تو اس کی بھی تم  
نے مجھے خبر نہیں کی، (خلاصہ یہ کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے جو بیانات میں نے  
تم کو پہنچائے وہ تم سمجھ گئے ہو یا نہیں؟) لوگ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا  
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کی تعلیمات پہنچادی ہیں، اور اپنی امت  
کی خیر خواہی فرمائی ہے اور جو فریضہ آپ کے اوپر تھا ادا کر دیا ہے، پھر لوگ خاموش ہو گئے  
تو آپ نے فرمایا

اما بعد: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آفتاب اور ماہتاب کا گرہن ہونا اور ان  
ستاروں کا اپنے اپنے مطلع سے ہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت  
کے باعث ہوتا ہے، انہوں نے جھوٹ کہا، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی (قدرت کی)  
نشانیوں میں سے یہ بھی ایک قسم کی نشانیاں ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا  
امتحان لیتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ ان میں سے کون تو بہ کرتا ہے، بخدا جس وقت میں نماز  
میں کھڑا تھا اس وقت میں نے ان (بڑے بڑے) واقعات کو دیکھا ہے جو تمہیں دنیا و  
آخرت میں پیش آنے والے ہیں۔

اور بخدا جب تک تیس کذاب ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی، ان میں آخری  
کذاب کا نادر جمال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ابوحنیفی (ایک انصاری بزرگ صحابی) کی آنکھ  
کی طرح مسسوح ہوگی۔ جب وہ نکلے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، پس جو شخص اس پر  
ایمان لے آئے گا اور اس کی تصدیق اور پیروی کرے گا اُسے پھلا کوئی نیک عمل نفع نہ

ہے مسسوح وہ چیز جس پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہو مطلب یہ کہ اس کی بائیں آنکھ ایسی بے نور ہوگی جیسے ہاتھ  
پھیر کر اس کا نور بجھا دیا گیا ہو بعض مستند روایا ہیں جو ہے کہ اس کی آنکھ انگوڑی طرح باہر نکلی ہوگی

دے گا مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال باطل اور بے کار ہو جائیں گے) اور جو شخص اس کی نافرمانی اور تکذیب کرے گا اس کو پھلے کسی (بڑے عمل کی سزا نہ دی جائے گی یعنی اس کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے)۔

وجمال حرم (یعنی مکہ و مدینہ) اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر مستطط ہوگا اور مومنین کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا، جو سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ پس ان میں صبح کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام (تشریف فرما ہوں گے، پس اللہ و جمال اور اس کے لشکروں کو شکست دے دے گا۔ جتنی کر دیوار کی بنیاد اور درخت کی جڑ بھی آواز دے گی کہ ”اے مومن میری آڑ میں یہ کافر چھپا ہوا ہے اگر اسے قتل کر دے“ اور وہ واقعہ (قیامت کا) پیش نہیں آئے گا جب تک کہ تم ایسے واقعات نہ دیکھ لو جو تمہارے نزدیک بہت بڑے ہوں گے۔ تم اس وقت ایک دوسرے سے پوچھا کرو گے کہ کیا تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس واقعہ کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ نیز (قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی) جب تک کہ پہاڑ اپنے مرکزوں سے نہ ہٹ جائیں پھر اس کے بعد قبض (ارواح) ہوگا (یعنی قیامت آجائے گی) یہاں آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔

ثعلبہ بن عباد (جنہوں نے یہ حدیث حضرت سمرة بن جندب سے سنی) فرماتے ہیں کہ میں پھر حضرت سمرة بن جندب کے ایک اور خطبہ میں حاضر ہوا تو اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی نہ کسی لفظ کو مقدم کیا نہ مؤخر۔

(مستدرک حاکم، مستدرک احمد، والدر المنثور، وابن خزیمہ، وطحاوی، وابن حبان وابن جریر)

بقیہ حاشیہ ص ۶۸: اس سے مراد اس کی واہیں آنکھ ہے آگے حدیث ۳۵ میں اس کی صراحت آرہی ہے خلاصہ یہ کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب از ہوگی بائیں آنکھ مسوح (بے نور کھجی ہوئی) ہوگی جسے حدیث ۵ میں حافظ نے تعبیر کیا گیا ہے اور دائیں آنکھ انور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جس کے بارے میں حدیث ۵ میں ”بینہ الیہنی ظفرۃ غلیظۃ“ فرمایا گیا ہے۔ حاشیہ ص ۶۸: ہذا لہ حضرات صحابہ کرام اور محدثین کی یہ غایت درجہ احتیاط اور قوت حافظہ کی دلیل ہے کہ حدیث کے الفاظ میں کسی تقدیم و تاخیر سے بھی اجتناب فرماتے تھے۔ فجر اہم اللہ جس الجبار

دکنہ العمال، ابو داؤد، نسائی، ترمذی و ابن ماجہ، اور بخاری نے بھی یہ حدیث اختصار کے ساتھ بیان کی ہے۔

۱۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے دورِ اوّل میں میں اور آخری دور میں عیسیٰ (علیہ السلام)۔ (حاکم، کنز العمال، الدر المنثور، مشکوٰۃ، نسائی)

۱۹۔ جلیل القدر تالابی حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ ایسی امت کو ہرگز مسوا نہیں کرے گا جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ (علیہ السلام)۔ (ابن ابی شیبہ، المحکم الترمذی، الحاکم، الدر المنثور)۔

۲۰۔ حضرت ابو الطفیل اللیثی فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ میں تھا تو یہ افواہ اڑی کہ ”یہ وصال نکل آیا، ہم حضرت حدلیقہ بن اسید (رضی اللہ عنہ) کے پاس آئے اور میں نے کہا کہ ”یہ وصال تو نکل آیا ہے“ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، اتنے میں اعلان ہوا کہ یہ ایک کذاب کا جھوٹ ہے۔

پس (حضرت) حدلیقہ نے فرمایا کہ وصال اگر تمہارے زمانہ میں نکلتا تو بچے اسے کنکریاں مارتے وہ تو ایسے زمانہ میں نکلے گا۔ جب اچھے لوگ کم رہ جائیں گے، دین میں کمزوری آجائے گی، اور آپس کی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، پس وہ ہر گھٹ پر اترے گا اور (مسافرتیں اتنی تیز رفتاری سے قطع کرے گا کہ گویا) اس کے لئے زمین لپیٹ دی جائے گی جیسے کہ مینڈھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے جتنی کہ وہ مدینہ (کے آس پاس) آئے گا بیرون مدینہ پر اُس کا غلبہ ہو جائے گا اور اندرون مدینہ سے اُسے روک دیا جائے گا، پھر وہ ایلیا (بیت المقدس) کے پہاڑ تک آئے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اس سرکش سے جنگ کرنے میں تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ (اس کا مقابلہ کرو) یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو، یا فتح یاب ہو جاؤ، پس مسلمان تلے کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی اُس سے جنگ کریں گے، اب مسلمان اس حال میں صبح

لے احادیث میں صراحت ہے کہ مدینہ کے ہر راستہ پر اس زمانہ میں فرشتوں کا پہرہ ہوگا جو لسانِ اندر آنے نہیں دیں گے۔ (ر۔ ف)

کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ ہوں گے، پس عیسیٰ علیہ السلام و جلال کو قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں کو شکست دیدیں گے۔ (مستدرک حاکم، والدرا المنثور)

۲۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ مرد عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے اور دجال سے ہونے والی جنگ میں شریک ہوں گے۔ (الدرا المنثور، مستدرک حاکم، کنز العمال، ابن خزیمہ، اوسط طبرانی و صحیح الزوائد)۔

۲۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو عیسیٰ ابن مریم کو پائے ان کو میرا سلام پہنچا دے۔ (الدرا المنثور بحوالہ مستدرک حاکم)

۲۳۔ حضرت داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی: زمین میں دھنسا دینے کا ایک واقعہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ العرب میں دجال، دھواں، نزول عیسیٰ، یا جوج ماجوج، وابتداء الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ایک آگ جو عدن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو مانگتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی، چھوٹی اور بڑی جیونٹی کو جمع کر دے گی (یعنی ہر چھوٹے رطے ضعیف اور قوی آدمی کو محشر میں جمع کر دے گی)۔ (طبرانی، حاکم، ابن مرویہ، اور کنز العمال)

۲۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس دسبیس پہلی نماز فجر کے علاوہ باقی نمازوں میں، مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے، اور (نماز پڑھاتے ہوئے)

۱۔ ان سب علامات کی تشریح حدیث ۱۷ کے حاشیہ میں گذر چکی ہے، اس کی مراجعت کی جائے (ریح)  
۲۔ حدیث ۱۷ کے آخر میں ہے کہ یہ آگ یمن سے نکلے گی، دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ عدن بھی یمن ہی کا علاقہ ہے اور لفظ گرائی کی تشریح آگے حدیث ۱۷ کے حاشیہ میں ملاحظہ کی جائے۔

۳۔ کیونکہ کچھ کئی احادیث میں گذر چکا ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی نازیکی امامت امام مہدی کریں گے (۱۲ درجہ)



رکوع سے سر اٹھا کر سَمِعَ اللهُ لَيْسَ حَمْدَهُ کے بعد بطور دعا فرمائیں گے "اللہ و جلال کو قتل کرے اور مؤمنین کو غالب کرے۔"

(سعیات حاشیہ شرح وقایہ، بحوالہ صحیح ابن جبران، و مجمع الروا ئد بحوالہ برادر)

۲۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر میری عمر طویل ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں، پس اگر میری موت جلد آگئی تو جو ان سے ملے اُن کو میرا سلام پہنچا دے۔ یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں مرفوعاً روایت کی ہے (یعنی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے) اور امام احمد نے اپنی مسند ہی میں دوسری سند سے بعینہ اسی مضمون کی ایک روایت مرفوعاً بھی ذکر کی ہے۔ یعنی اس میں یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کیا ہے اور سندیں دونوں روایتوں کی صحیح ہیں ایک سے یہ ارشاد اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے اور دوسری سے حضرت ابو ہریرہؓ کا۔

مگر جو شخص اس باب کی احادیث میں غور و فکر سے کام لے گا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ

۱۔ احقر کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ارشاد بطور دعا کے ہو گا۔ ترجمہ بھی اسی کے مطابق کیا گیا ہے اور قرینہ یہ ہے کہ حدیث میں سَمِعَ اللهُ لَيْسَ حَمْدَهُ کے بعد بجز عطف کے قتل اللہ الدجال و اظہار المؤمنین آیا ہے اور ظاہر ہے سَمِعَ اللهُ لَيْسَ حَمْدَهُ جملہ دعا ہے۔ لہذا مانا سکتا ہے کہ بعد کا جملہ بھی دعا ہے اور بظاہر یہ دعا قنوتِ نازلہ کے طرز پر ہوگی جو حادثاً و مصائب کے وقت مسلمانوں کی حفاظت اور دشمنوں پر فتح کے لئے نمازِ فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد سجدہ سے پہلے قومی کی جاتی ہے اور شیخ عبدالفتاح الوعدہ دام ظلانے نے اسے جملہ خبریہ قرار دیا ہے پھر اس پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ دوسری احادیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جلال کو اپنے حربہ سے بابِ لُدِّ پر قتل کریں گے اور زیر بحث جملہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اثناء نماز میں قتل کریں گے، دونوں حدیثوں میں تضاد نہیں ہوا تو اس کا جواب انھوں نے اپنے شیخ سے یہ نقل کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناز صلوٰۃ الخوف ہو جو بابِ لُدِّ کے مقام پر ادا کی جا رہی ہوگی کہ اثناء نماز میں عیسیٰ علیہ السلام کو و جلال نظر آجائے گا چنانچہ آپ حربہ سے نماز کے اندر ہی اس کا کام تمام کریں گے واللہ اعلم۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پہنچانے کی وصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے اور حضرت ابوہریرہؓ نے بھی، لہذا اس حد تک یہ روایت حرفاً بھی صحیح ہے موقوفاً بھی، رہا اس حدیث کا پہلا جملہ کہ ”اگر میری عمر طویل ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں“ تو اس باب کی احادیث میں غور و فکر اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ یہ ارشاد صرف حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ کا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں و جہ یہ ہے کہ احادیث کثیرہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہوگی، مثلاً صحیح مسلم اور مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آکر مجھے سلام کریں گے اور میں سلام کا جواب دوں گا۔“

۲۴- حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ توراہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کئے جائیں گے۔  
(ترمذی، والدرا المنثور)

۲۷- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے اقل میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، اور درمیان میں مہدی۔

(نسائی، دیو نعیم، والحاکم وابن عساکر وکنز العمال و السراج المنیر)

۲۸- حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجال کو قتل کرنے کی قدرت سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کسی کو نہیں دی گئی۔  
(الجامع الصغیر بحوالہ ابوداؤد طیالسی، و السراج المنیر)

۱۰ یہ مضمون حدیث ۲۷ کے آخر میں بھی گذر چکا ہے۔

۱۱ چنانچہ روزنہ اقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لئے جگہ خالی رکھی گئی ہے۔ (رف)

۱۲ درمیان سے مراد آخری زمانہ سے متصل پہلے کا زمانہ ہے! اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے زمانہ میں ہوگا، اور وہ امام مہدی کے چھپے ناز پر ہیں گے جیسا کہ چھپے کئی احادیث میں بیان ہوا ہے۔

۲۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی نمود کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی آنکھ بے نور اور باہر کو نکلی ہوئی ابھری ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا کہ (شاید) یہ دجال ہو (پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسے دیکھنے تشریف لے گئے) تو اسے ایک چادر کے نیچے (لیٹا ہوا) پایا، وہ اس وقت کچھ بڑا بڑا رہا تھا، اس کی ماں نے اُسے فوراً خبردار کیا کہ اُسے عبد اللہ یہ ابو القاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے ہیں ان کے پاس جاؤ یہ سنتے ہی وہ چادر سے باہر آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو کیا ہو گیا اللہ اسے غارت کرے اگر وہ اس کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیتی تو یہ اپنی حقیقت ضرور ظاہر کر دیتا، (یعنی اس کی باتیں سن کر جو وہ سنہائی میں کر رہا تھا ہمیں اس کی حقیقت حال معلوم ہو جاتی) پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا ”اے ابن صائد تجھے کیا نظر آتا ہے؟“ اُس نے کہا ”میں حق دیکھتا ہوں اور باطل دیکھتا ہوں اور ایک تخت پانی پر (بچھا ہوا) دیکھتا ہوں (حضرت جابرؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

۱۔ کیونکہ اس میں دجال کی متعدد علامات پائی جاتی تھیں، مگر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ دجال کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا نہ مکہ میں حالانکہ یہ لڑکا مدینہ میں پیدا ہوا وہیں چل کر جوان ہوا اور بڑا ہو کر صحابہ کرام کی معیت میں حج کے لئے مکہ مکرمہ گیا، پھر اس کے دجال ہونے کا اندیشہ کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بندر یوحی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ بعد میں جب بندر یوحی معلوم ہو گیا تو آپ کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ ۲۔ روایات میں اس لڑکے کے متعدد نام آئے ہیں، عبد اللہ، ابن صائد، ابن الصائد اور ابن صیاد وابن الصیاد اور صفی، یہ سب اس کے نام ہیں، بظاہر اس کا نام عبد اللہ اس وقت رکھا گیا جب بڑا ہو کر اس نے اسلام قبول کیا، اور یہاں ماں نے بظاہر اس کا بچپن کا نام لے کر پکارا ہو گا، مگر راوی نے اس کا اسلامی نام ذکر کر دیا (حاشیہ) ۳۔ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ یہ بچہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور بعض غریب کی باتیں بھی کرتا ہے۔ اسی لئے آپ نے یہ سوال کیا ہے مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابن الصیاد نے یہ جواب دیا کہ ”میں ایک تخت سمندر پر دیکھتا ہوں“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ابلیس کا تخت ہے“

صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حال واضح نہ ہوا تو آپ نے پوچھا ”کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں؟“ اس نے کہا کیا آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں (اور تو ان میں سے نہیں ہے کہ تجھ پر ایمان لاتا) پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور اُسے اُس کے حال پر ہچھوڑ دیا۔

اس کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر اس کے پاس تشریف لائے تو اُسے کھجور کے باغ میں پایادہ اس وقت بھی بڑو بڑا رہا تھا، اور اس مرتبہ بھی اس کی ماں نے اُسے بتا دیا کہ اے عبداللہ یہ ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے ہیں، آپ نے فرمایا ”اس عورت کو کیا ہو گیا، اللہ اسے غارت کرے اگر یہ اسے نہ بتاتی تو وہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا (حضرت جابر رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ (اس کی بے خبری میں) اس کی کچھ باتیں سن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہی وہی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ”اے ابن صائد تجھے کیا نظر آتا ہے اُس نے کہا ”میں حق دیکھتا ہوں اور باطل دیکھتا ہوں، اور ایک تخت پانی پر بچھا ہوا

۱۔ ابن الصائد کا حال جو اس حدیث اور دوسری متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں میں سے تھا، اور اس کے حال کا منوں کی طرح کے تھے کہ کبھی سچ بھی بولتا تھا مگر اکثر دیشہ جھوٹ بولتا تھا پھر بڑا ہجو کر مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ حج وغیرہ میں شریک ہوا، پھر اس کے کچھ احوال ایسے ظاہر ہوئے جو دجال کی علامات میں سے تھے، پھر یزید کے دور حکومت میں مدینہ طیبہ میں حترہ کے مقام پر جو مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی اس میں یہ لاپتہ ہو گیا۔ علماء محققین نے صراحت کی ہے کہ یہ وہ دجال نہیں تھا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اے حضرت عبید اللہ بن عبدالمطلب قتل کریں گے کیونکہ اسی کتاب کی متعدد احادیث میں صراحتاً گزر چکا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، حالانکہ ابن صائد مدینہ میں پل کہ جو ان ہوا اور حج کے لئے مکہ مکرم بھی گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کا شہادہ دیا اس وقت تک راجب تک (دجال کی مفصل علامات آپ کو معلوم نہیں تھیں، مفصل علامات معلوم ہونے کے بعد یہ خبر جاننا اور شہید جاتے رہنے کی دلیل یہ ہے کہ خود آپ نے ہی متعدد احادیث میں صراحت فرمادی کہ دجال مکہ مکرم اور مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔

دیکھتا ہوں، آپ نے پوچھا ”کیا تو میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیتا ہے، اس نے کہا ”کیا آپ میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ غرض (اس مرتبہ بھی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حال مشتبه ہی رہا۔ پھر آپ دہاں سے تشریف لے آئے اور اُسے اس کے حال پر پھوڑ دیا،

اس کے بعد آپ تیسری یا چوتھی مرتبہ تشریف لائے اس وقت ابو بکرؓ اور عمر بن الخطابؓ بھی ماجرین و انصار کی ایک جماعت میں آپ کے ساتھ تھے، اور میں (جابرؓ) بھی آپ کے ساتھ تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر ہم سے آگے نکل گئے کہ اس کی کوئی بات سن لیں گے لیکن اس کی ماں نے پھر اسبقت کی اور بول اٹھی کہ اے عبد اللہ یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے کیا ہو گیا ہے اللہ اسے غارت کرے اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ (اپنی حقیقت) ظاہر کر ہی دیتا۔

پھر آپ نے پوچھا ”اے ابن صائد تجھے کیا نظر آتا ہے؟“ اس نے کہا میں حتی دیکھتا ہوں اور باطل دیکھتا ہوں، اور پانی پر ایک تخت دیکھتا ہوں، آپ نے پوچھا ”کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“ اس نے کہا ”کیا آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“ آپ نے فرمایا ”میں اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں (اور تو ان میں سے نہیں کہ تجھ پر ایمان لاتا، غرض (اس مرتبہ بھی) آپ پر اس کا حال مشتبه رہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ابن صائد ہم نے تیرے امتحان کے لئے ایک بات بولی ہے، چھپائی ہے، بتا وہ کیا ہے؟“ اُس نے کہا ”الدُّخْرُ الدُّخْرُ“ آپ نے فرمایا ”ذلیل ہو ذلیل ہو۔“

(حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ

لے دوسری روایات میں ہے کہ آپ نے دلیں قرآن حکیم کی یہ آیت سوچی تھی ”وَكَارْتَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ“ سے مذکورہ بالا آیت میں دُخَان (دھوئیں) کا ذکر تھا، پھر دعا آیت تو وہ کیا بتاتا لفظ دُخَان بھی نہ بتا سکا صرف ”الدُّخْرُ الدُّخْرُ“ کہہ کر رہ گیا اور یہ امتحان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے کیا تھا کہ صحابہ پر یہ بات کھل جائے کہ یہ کاہن ہے اور کوئی شیطان اس پر سلسط ہے جہاں کی زبان سے بولتا ہے۔

اسے قتل کر ڈالوں، آپ نے فرمایا اگر یہ وہی (دجال) ہے تو تم اس کے قتل کرنے والے نہیں ہو (کیونکہ) اہل ذمہ قتل کرنے والے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں

(حضرت جابرؓ) فرماتے ہیں کہ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کا خطرہ باقی رہا۔  
(مسند احمد، کنز العمال بحوالہ "المختارہ")

۳۰۔ حضرت آدس بن آدس الثقفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جانب مشرق میں سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے۔  
(الدر المنثور بحوالہ الطبرانی، وکنز العمال، و ابن عساکر وغیرہ)

۳۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے زمانہ میں نکلے گا جب کہ دین میں اضمحلال اچکا ہوگا اور علم نصحت ہو رہا ہوگا، اس (کے خروج کے بعد دنیا میں رہنے) کی مدت چالیس روز ہوگی، اس مدت میں وہ گھومتا رہے گا ان چالیس روز میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، پھر اس کے باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔

اس کا ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس گدھے کے دوکانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، دجال لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ کانٹا ہوگا اور (ظاہر ہے کہ) تمہارا رب کانٹا نہیں (لہذا تمہارے لئے فیصلہ کر لینا کہ وہ تمہارا رب نہیں نہایت آسان ہے) اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان (پیشانی پر) ک۔ ف۔ (دکھڑا) لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

لے اہل ذمہ، اور "ذمتی" ان کافروں کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں رہتے ہوں اور اسلامی حکومت کی طرف سے ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہو۔

لے یعنی جب تک آپ کو بذریعہ دہی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دجال کہہ دینے میں داخل نہ ہو سکے گا اس وقت تک یہ خطرہ باقی رہا، معلوم ہونے کے بعد یہ خطرہ جاتا رہا۔

وہ ہر پانی اور گھاٹ پر اترے گا، سوائے مدینہ اور مکہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے، اور ان کے دروازوں (راستوں) پر فرشتے کھڑے (پہرہ دے رہے) ہیں (تاکہ دجال داخل نہ ہو سکے)۔

اس کے ساتھ روٹی کے (ذخیرے) پہاڑوں کی مانند ہوں گے، اور سوائے ان لوگوں کے جو اس کی پیروی کریں گے، سب لوگ مشقت میں ہوں گے، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جن کو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، ایک نہر کو وہ جنت کہے گا اور دوسری نہر کو آگ کہے گا، پس جو شخص اس نہریں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے جنت رکھا ہوگا وہ (درحقیقت) آگ ہوگی، اور جو شخص اس نہریں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے آگ رکھا ہوگا وہ (درحقیقت) جنت ہوگی۔

اور اللہ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ایک فتنہ عظیم یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ لوگوں کو بارش برساتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ایک شخص کو قتل کرے گا پھر لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ اُسے زندہ کر رہا ہے، دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور (کے مارنے اور زندہ کرنے) پر قدرت نہیں دی جائے گی، اور وہ کہے گا ”اے لوگو! اس جیسا کارنامہ رب عزوجل کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے (یعنی میرا یہ کارنامہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے)۔

پس مسلمان شام کے ”جبل دخان“ کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آکر ان کا محاصرہ کر لے گا، یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے ”اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لئے کیا چیز مائع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، (لہذا اس کا مقابلہ مشکل ہے)۔

لہٰذا اس جملہ کی تشریح سے متعلق مضمون حدیث ۱۳ کے حاشیہ میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔  
دجال کی شہدہ بازی اور سمریم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو یا مکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانی جنات کی طرح ہے ۱۲

غرض مسلمان روانہ ہوں گے، تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، پس نماز کی اقامت ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا "یا روح اللہ آگے بڑھئے" اور نماز پڑھا ئیے) وہ فرمائیں گے کہ تمہارے امام کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہئے غرض نماز فجر ادا کر کے یہ سب لوگ دجال کی طرف نکل کھڑے ہوں گے، پس کذاب (دجال) عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی یوں گھٹنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے پس عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف چلیں گے اور قتل کر ڈالیں گے حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی پکاریں گے کہ یا روح اللہ یہودی یہ ہے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی دجال کا پیرو ہوگا اُسے قتل کر کے پھوڑیں گے۔ (مسند احمد و مستدرک حاکم)

۳۲۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت اپنے دشمنوں کے مقابل میں حق پر مسلسل ڈٹی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت قریب) آپہنچے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں (مسند احمد)

۳۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت رو رہی تھی، آپ نے رونے کا سبب پوچھا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دجال یاد آ گیا تھا (اس کے خوف سے) رو پڑی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہارے لئے کافی ہوں اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو تمہیں اس کے فریب سے پھر بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے دعوئے خدائی کی تکذیب کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ — وہ اصفہان کے (ایک مقام) "یہودیت" میں نکلے گا،

۱۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے ۱۲

۱۵۔ اصفہان ایران کے ایک مشہور علاقہ کا نام ہے۔ علامہ یاقوت حموی نے بحم البلدان میں ذکر کیا ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان کے علاقہ میں ایک قلعہ پر جا کر آباد ہوئی یہاں انہوں نے کائنات و ظیور تعمیر کئے اور یہیں ان کی نسل پھلتی رہی اور اس مقام کا نام "یہودیت" پڑ گیا (ص ۱۵۸)



حتیٰ کہ مدینہ بھی آئے گا اور مدینہ کے باہر ایک جانب پڑاؤ ڈال دے گا، اس وقت مدینہ کے سات دروازے دیارستے ہوں گے، جن میں سے ہر درے پر دو فرشتے ہوں گے، جو اسے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، پس مدینہ کے خراب لوگ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ شام یعنی فلسطین میں باب لُد کے مقام پر ایک شہر میں چلا جائے گا۔

اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اُسے قتل کر ڈالیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں امام عادل، اور حاکم منصف کی حیثیت سے چالیس سال رہیں گے۔

(مسند احمد، والد المنثور بحوالہ ابن ابی شیبہ)

۳۴۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ جہاں ان کو دیکھتے ہی (خوف سے) ایسا پگھلنے لگے گا جیسے چربی پگھلتی ہے، پس وہ وہ جہاں کو قتل کریں گے، اور یہودیوں کو اس کے پاس سے بتر بتر کریں گے۔ پھر سب یہودی قتل کر دیئے جائیں گے حتیٰ کہ پتھر بھی پکارے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی ہے آکر اسے قتل کر دے۔

(مسلم وکنز العمال بحوالہ ابن ابی شیبہ)

۳۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا ”سنو“ مجھ سے پہلے جو نبی بھی آیا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، وہ بائیں آنکھ سے کاٹا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پر ایک موٹی پھلتی ہوگی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان،

لے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور مسلم نے یہ حدیث مختصراً ذکر کی ہے، نیز صحیح بخاری میں بھی مختصراً آئی ہے (حاشیہ) لے یہ وہی آنکھ ہے جسے بعض روایات میں طَائِفَةُ دَمِ الْبَعْرِہ یعنی بے نور بھی ہوئی کہا گیا ہے، اور بعض روایات میں مسووح العین الیُسْرٰی کہا گیا ہے لے یہ وہ آنکھ ہے جس کو بعض روایات میں طَائِفَةُ دَمِ الْبَعْرِہ یعنی ابھری ہوئی، باہر کو نکل ہوئی کہا گیا ہے، بعض روایات میں اسے باہر کو نکلے ہوئے انگوڑے تشبیہ دی گئی ہے اور حدیث ۳۱ میں اسے بھی مسووح کہا گیا ہے۔ لے یہ ظَفْرَةُ الْكَاثِرِہ ہے ظَفْرَةُ اس، بقیہ ص ۸۱ پر ملاحظہ فرمائیں

پیشانی پر) "کافسہ" لکھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ دو دایاں ہوں گی جن میں سے ایک جنت اور دوسری آگ ہوگی (مگر حقیقت برعکس ہوگی کہ) اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ۔ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء (سابقین) میں سے دونوں کے مشابہ ہوں گے، اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے آبا و اجداد کے نام بھی بتا سکتا ہوں (مگر حاجت یا مصلحت نہیں اس لئے نہیں بتاتا)

ان دو فرشتوں میں سے ایک دجال کے دائیں جانب ہوگا اور دوسرا بائیں جانب، اور یہ سب کچھ (لوگوں کی) آزمائش کے لئے ہوگا چنانچہ دجال پوچھے گا "کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں ہوں؟" ایک فرشتہ جواب دے گا کہ "تو نے جھوٹ بولا ہے،" (مگر یہ جواب سوائے اس کے ساتھی (فرشتے) کے کوئی آدمی نہ سن سکے گا، اور وہ (ساتھ والا فرشتہ پہلے فرشتے سے) کہے گا کہ "تو نے سچ کہا ہے" اس جواب کو سب حاضرین سن لیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ دوسرا (فرشتہ) دجال کی تصدیق کر رہا ہے حالانکہ وہ پہلے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا جس نے دجال سے کہا تھا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔)

پھر وہ روانہ ہوگا اور مدینہ (طیبہ کے قریب) پہنچے گا، مگر اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی بقیہ حاشیہ ص ۵۸، گوشت کہتے ہیں جو بعض لوگوں کے گوشہ چشم پر آگ آتا ہے اور بعض اوقات آنکھ کی پتی تک پھیل کر اسے دھچاپ لیتا ہے (حاشیہ) تنبیہ۔ بعض احادیث میں دجال کو بائیں آنکھ سے کانٹا کھا گیا ہے اور بعض میں دائیں آنکھ سے سرسری نظر میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے مگر اس حدیث سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کی دونوں ہی آنکھیں عیب دار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور (کافئۃ) ہوگی اور دائیں آنکھ ناخن کی دھبے سے باہر کراؤنگو کی طرح نکلی ہوئی ہوگی۔ دجال کی آنکھوں کی تفصیل حدیث ۵۷ و ۵۸ کے حاشیہ میں ہم دیکھے ہیں لکھ چکے ہیں حاشیہ صفحہ ۵۸، اے ظاہر ہی ہے کہ یہ لفظ حقیقتہً لکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ عیب بھی نہیں لیکن احتمال یہی ہے کہ حدیث میں "لکھا ہوا ہونے" کے حقیقی معنی مراد ہوں بلکہ استعارہ کے طور پر اس کی دونوں آنکھیں اُس کے کافر ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہوں گی کیونکہ وہ کانٹا ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرے گا جس سے ہرگز بچاؤ نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہے (ص ۱۲) یعنی تو نہ زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہے نہ مارنے کی ۱۲

اجازت (قدرت) نہ ہوگی، چنانچہ وہ کہے گا کہ یہ اُس آدمی کا شہر ہے (اسی لئے میں اس میں داخل نہ ہو سکا۔)

پھر وہ یہاں سے چل کر شام آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور "افیق" نامی گھاٹی کے پاس اُسے قتل کر دیں گے (مسند احمد والدر المنثور بحوالہ ابن ابی شیبہ)

۳۶۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں دجال کے ساتھ ہوں گی میں انہیں دجال سے زیادہ جانتا ہوں، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جن میں سے ایک تو دیکھنے والوں کو بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی، اور دوسری سفید پانی، پس تم میں سے جو اس کو پائے اسے چاہئے کہ (اپنی) آنکھیں بند کر لے اور پانی اس نہر سے پیئے جو دیکھنے میں آگ نظر آتی ہو، کیونکہ (حقیقت میں) وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور دوسری نہر سے بچتے رہنا کیونکہ وہی عذاب ہے۔

اور جان لو کہ اس کی پیشانی پر "کافر" لکھا ہوا ہوگا، جسے وہ شخص بھی پرٹھ لے گا جو لکھنا جانتا ہو اور وہ بھی جو لکھنا نہ جانتا ہو اور اس کی ایک آنکھ مسوومہ (مٹی ہوئی) ہوگی، اس پر ایک پھٹی ہوگی۔

وہ آخری بار اردن کے علاقہ میں "افیق" نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا، اس وقت جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اردن کے علاقہ میں موجود ہوگا (مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں) وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور ایک تہائی کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائیگی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لئے اپنے (شہید) بھائیوں سے جاملنے (شہید ہو جانے) میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زاد ہو وہ اپنے (مسلمان) بھائی کو دیکھے، تم فجر ہوتے ہی (عام مول کی یہ نسبت)

۱۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ۱۲ھ یہ گھاٹی اردن میں ہے اور اردن کی سرحد فلسطین سے ملتی ہوئی ہے لہذا جن حدیثوں میں ہے کہ فلسطین میں باب لُد کے پاس قتل کریں گے یہ حدیث ان کے معارض نہیں اس گھاٹی کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے اس کی مراجعت کی جائے ۱۲ھ اس کی تفسیر حدیث ۲۵ کے ساتھیوں کی لڈ چکی ہے ۱۲

جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن کے مقابلہ پر روانہ ہو جانا  
 پس جب یہ لوگ نماز کے لئے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل  
 ہو جائیں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے، اشارہ  
 کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے اور دشمن خدا (دجال) کے درمیان سے ہٹ جاؤ، تاکہ  
 مجھے دیکھ لے، — ابو حازم (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں) کہتے ہیں کہ  
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجال (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی) ایسا پگھلے  
 گا جیسے دھوپ میں چکنائی گھلتی ہے، اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ (ایسا  
 گھلے گا) جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور اللہ دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو  
 مستط کر دے گا چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے، کہ  
 اے اللہ کے بندے، اے رحمن کے بندے، اے مسلمان یہ یہودی ہے اسے قتل کر  
 دے، "عرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتوحا ہونگے، پس مسلمان صلیب  
 کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔"

مسلمان اسی سال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کو باہر نکال دے گا، ان  
 کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ کا پانی، پی لے گی، اور ان کی آخری جماعت جب وہاں پر  
 پہنچے گی تو پہلی جماعت اس کا سارا پانی پی چکی ہوگی اور اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا  
 ہوگا، چنانچہ بعد میں آنے والی جماعت بحیرہ طبریہ کو دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کسی زمانہ میں  
 پانی کا اثر تھا۔

پس پیغمبر خدا (عیسیٰ علیہ السلام) اور ان کے پیچھے ان کے ساتھی اگر فلسطین کے  
 ایک شہر میں داخل ہو جائیں گے جسے "لُد" کہا جاتا ہوگا۔

یا جوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے آداب آسمان والوں سے  
 جنگ کریں اس وقت پیغمبر خدا (عیسیٰ علیہ السلام) اللہ سے دعا کریں گے جس کا نتیجہ یہ  
 ہوگا کہ اللہ ان کے حلق میں ایک قسم کا پھوڑا (یا زخم) پیدا کر دے گا جس کے باعث

لے پچھے حدیث میں ہے کہ "اللہ ان کے اوپر ایک کیڑا مستط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا" اور  
 (باقی صفحہ پر)

ان میں سے کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب ان (کی لاشوں) کا تعفن مسلمانوں کو پریشان کرے گا، تو عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا کریں گے، چنانچہ اللہ یا جوج ماجوج (کی لاشوں) پر ایک ہوا بھیجے گا جو ان سب کو سمندریں ڈال دے گی۔

(مستدرک حاکم، وکنز العمال بحوالہ ابن عساکر، یہ حدیث مسلم میں مختصراً آتی ہے)

۳۷۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے) ابتدائی علامات دجال اور نزول عیسیٰ ہیں، اور ایک آگ جو عدن کی گہرائی سے نکلے گی (اور لوگوں کو معشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی)۔  
(الدر المنثور بحوالہ ابن جریر)

۳۸۔ حضرت عبد اللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفرینش آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے ایسا کوئی فتنہ نازل نہیں کیا (اور ذکرے گا) جو دجال کے فتنہ سے زیادہ عظیم ہو۔ اور میں نے اُس کے بارے میں ایسی باتیں (علامات) بتادی ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسی کسی نے نہیں بتائیں۔

اس کا رنگ گہرا گدھی ہوگا، بال پیچ دار ہوں گے، بائیں آنکھ مسح (بے نور) ہوگی، اس کی دائیں آنکھ پر موٹی پُھلی ہوگی، مادرزاد اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا، اور کہے گائیں تمہارا رب ہوں، پس جو شخص کہے گا کہ ”میرا رب اللہ ہے“ اس پر کوئی فتنہ (عذاب) نہ ہوگا، اور جو شخص کہے گا کہ ”تو میرا رب ہے“، وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا (یعنی کافر ہونے کے باعث جب تک لٹہ چاہے گا وہ چھوڑے گا) پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے انہی کی شریعت پر کار بند ہو گئے وہ ایک نیا قیامت یا قیامت اور حاکم ملو ہو گئے اور دجال کو قتل کریں گے۔

بقیہ حاشیہ ص ۸۳ یہاں ”میں ایک قسم کے پھوڑے“ کا ذکر ہے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیرا گردن میں پیدا ہوگا اس کی وجہ سے حلق میں پھوڑا یا زخم ہو جائے گا اور وہی موت کا آخری سبب بنے گا (حاشیہ ص ۸۳) حاشیہ صفحہ ۸۳ لے یہ ”تعدی عن“ کا ترجمہ ہے علامہ نووی اس کی شرح میں فرماتے ہیں ”ومعنا من اقلی تعدی عن عدی“ یعنی عدن کے علاقہ میں زمین کی تہیں سے یہ آگ نکلے گی۔ شرح مسلم لنووی ص ۳۹ ج ۲ (اصح المطابع دہلی) لے دجال کی آنکھوں کی تفصیل حدیث ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ کے حاشیہ میں مل چکی ہے ۱۲

(کنز العمال بحوالہ طبرانی وفتح الباری)

۳۹۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (دیگر صحابہ تو آپ سے) خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں (اس حدیث کے آخر میں حضرت حدیث فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ابھی کی دعوت دیتے والوں کے بعد کیا واقعہ ہوگا آپ نے فرمایا "خروج وجمال" میں نے کہا یا رسول اللہ وجمال کیا لائے گا؟ آپ نے فرمایا "وہ ایک آگ اور ایک نہر لائے گا پس جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر تو اب یقینی ہو جائے گا اور اس کا گناہ (جو پہلے کبھی کیا ہوگا) معاف ہو جائے گا

میں نے کہا "یا رسول اللہ پھر وجمال (کے خروج) کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا "یسی ابن مریم" (نازل ہوں گے) میں نے کہا "تو عیسیٰ ابن مریم" کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا "اگر کسی شخص کی گھوڑی بچھوے گی تو قیامت آنے تک اس بچھو پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی۔ (کنز العمال و ابن عساکر بحوالہ ابن ابی شیبہ)

۴۰۔ حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتہ کے موقع پر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (فتح کی) خوشخبری دینے کے لئے (مدینہ بھیجا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب حالات پہلے ہی بذریعہ وحی معلوم ہو چکے تھے) چنانچہ جب میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا "یا رسول اللہ" تو آپ نے فرمایا "عبدالرحمن ذرا ٹھہرو" (یعنی مجھے سب حالات معلوم ہیں تم سے پہلے میں ہی

سے یعنی جو شخص وجمال کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور سزا کے طور پر وجمال اس کو اپنی آگت ڈال دیگا اس کو آخرت میں تو اب ملے گا اور پھلے گناہ معاف ہو جائیں گے) ۱۲۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ اس گھوڑی کے بچھو پر سواری کی نوبت آنے سے پہلے ہی قیامت آجائے گی اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جہاد کا سلسلہ قیامت تک منقطع رہیگا چنانچہ جہاد کی عرض سے کسی گھوڑے پر سواری نہ کی جائے گی ۱۲۔ اللہ اعلم۔ محمد رفیع ۱۵۔ اس حدیث کا کچھ حصہ بخاری مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے ۱۲

بتا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ بھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ رکھا تھا، وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے اللہ زید پر رحمت نازل فرمائے، پھر بھنڈا جعفر نے تمام لیا، اور وہ (بھی) لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ جعفر پر رحمت نازل فرمائے، پھر بھنڈا عبد اللہ بن رواحہ نے پکڑا وہ (بھی) لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ عبد اللہ پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر بھنڈے کو خالد بن ولید نے تھاما تو اللہ نے خالد کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی، پس خالد اللہ کی تلواروں میں ایک تو اسے ہے۔ (اس حدیث کے آخر میں ہے کہ) عیسیٰ ابن مریم میری امت میں ایسے لوگوں کو ضرور پائیں گے جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی صحبت میں ان کے مددگار بن کر رہیں گے۔

(الدر المنثور بحوالہ توادیر الاصول للحکیم الترمذی، وکنز العمال بحوالہ ابو نعیم)

یہاں تک چالیس حدیثیں ہوئیں جن میں سے ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق بعض ”صحیح“ میں اور بعض ”حسن“ (ضعیف حدیث کوئی نہیں)۔

## وہ احادیث جو محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیں اور ان پر سکوت فرمایا

(یعنی ان کے ”صحیح“ یا ”حسن“ وغیرہ ہونے کی صراحت نہیں کی)

۴۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد و سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو جو متناہی کسی جا میں شہید ہوں اس کا پورا ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا اور اللہ کی تلوار کو توڑا نہیں جاسکتا اسی لئے ان کی تمنا پوری نہ ہوئی (مشافہہ) ۲۔ جیسا کہ قارئین کرام کو معلوم ہے اس کتاب کی حدیثوں کا انتخاب مشہور امام حدیث استاذ الازا سائذہ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے آپ نے مختلف کتب حدیث میں سے تلاش کر کے چالیس احادیث تو ایسی جمع فرمادیں جو ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق سب کی سب قوی سند سے ثابت اور قابل استدلال ہیں یعنی بعض احادیث ”صحیح“ میں اور بعض حسن کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ پچھلے صفحات میں وہی چالیس حدیثیں بیان ہوئی ہیں مگر آگے جو احادیث آ رہی ہیں وہ جن کتب





۴۲- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”اے میرے چچا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، اور اختتام (پرودین کی خدمت) ایسے شخص سے کرے گا جو آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے آگے بڑھے گا یعنی نمازیں ان کی امامت کرے گا۔“  
(کنز العمال بحوالہ ابو نعیم)

۴۳- حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے چچا سے) فرمایا: اے عباس اللہ تعالیٰ نے اس چیز (یعنی اسلام) کا آغاز مجھ سے کیا اور اختتام (پرودین کی خدمت) ایسے شخص سے کرے گا جو تمہاری اولاد میں ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھروے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اور نمازیں عیسیٰ علیہ السلام کی امامت وہی کرے گا (کنز العمال بحوالہ دارقطنی، وخطیب ابن عساکر)  
۴۴- حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ دنیا پہلے ہے یا عیسیٰ ابن مریم؟ آپ نے فرمایا دنیا، پھر عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچھوے گی تو قیامت آنے تک بچھوے گا سواری کی نوبت نہ آئے گی۔  
(کنز العمال بحوالہ ابو نعیم بن حماد)

۴۵- حضرت کیسان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے (کنز العمال بحوالہ تاریخ البخاری و تاریخ ابن عساکر)

۴۶- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا (یعنی مسلمانوں) کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا جس کو اللہ فتح نصیب فرمائے گا، حتیٰ کہ یہ لشکر اہل ہند کے بادشاہوں کو طوق و

لے شیخ عبدالفتاح ابو غندہ وامت برکاتم کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث موضوع ہے جیسا کہ چھپے ہی بیان کیا جا چکا ہے تفصیل کے لئے اسی کتاب کے شامی ایڈیشن میں موصوف کے حواشی ص ۲۱۵، ملاحظہ فرمائے جائیں ۱۲  
۱۳ یہ حدیث بھی موضوع ہے تفصیل کے لئے شامی ایڈیشن کے حواشی ص ۲۱۶ تا ۲۱۷ ملاحظہ فرمائے جائیں۔

سلاسل میں جکڑ لے گا، اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر جب یہ لوگ لوٹے واپس لوٹیں گے تو شام میں ابن مریم کو پائیں گے۔ (کنز العمال بحوالہ نعیم بن حماد)

۴۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے تک میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لوگوں (ڈنمنان اسلام) کے مقابل میں ڈٹی رہے گی اور اپنے مخالفین کی پروا نہ کرے گی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قتادہ کو سنائی تو انھوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت اہل شام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے (کنز العمال بحوالہ ابن عساکر)

۴۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے مشرکین اور یہودی کریں گے، جن کے اوپر سب اذن کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے، اور لوگوں کو دکھا کر گمراہ کریں گے (آگے ابن عباس فرماتے ہیں کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اس وقت میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اُفتاب نامی پہاڑ (یعنی گھاٹی) پر اُمام ہادی اور حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، ان کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، میانہ قد، کشادہ پیشانی اور سیدھے بال والے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا۔ دجال کو قتل کریں گے، قتل دجال کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی اور امن (کا دور دورہ) ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آدمی شیر سے ملے گا تو شیر کو جوش نہ آئے گا (یعنی وہ حملہ نہ کرے گا) اور سانپ کو پکڑ لیگا

۱۔ بظاہر ان کی نسلیں مراد ہیں ۱۲ھ اس جماعت سے کوئی جماعت مراد ہے اس میں ائمہ حدیث کے مختلف اقوال میں ایک وہ ہے جو حضرت قتادہ کا اوپر نقل کیا گیا۔ اور علامہ زروق شارح مسلم کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ پوری جماعت کسی خاص طبقہ یا خاص علاقہ سے تعلق رکھتی ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کے تمام یا اکثر طبقات میں منتشر اور متفرق طور پر موجود ہو، یعنی اس جماعت کے کچھ افراد شام میں ہیں پکڑ جاتے ہیں، کچھ فقہاء میں کچھ صوفیاء میں کچھ مجاہدین میں، کچھ مبلغین میں وغیرہ وغیرہ (حاشیہ) ۱۳ھ اس گھاٹی کا کچھ بیان حدیث ۱۲ میں گذرا ہے ۱۲ھ جیسا کہ سچھے عربن کیا گیا شیخ عبد القناح ابو غدہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے تفصیل کے لئے شامی ایڈیشن کے حواشی ص ۲۲۳ تا ص ۲۲۴ ملاحظہ فرمائے جائیں۔

تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا، اور زمین اپنی نباتات ایسی (کثرت سے) اگانے لگے گی جس طرح آدم (علیہ السلام) کے زمانہ میں اگاتی تھی، اہل زمین ان کی تصدیق کر دیں گے، اور سب لوگ ایک ہی دین (اسلام) کے پیرو ہو جائیں گے۔ (کنز العمال بحوالہ ابن عساکر و اسحاق ابن بشر)

۴۹- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مجھ سے فرمایا کہ جب تیری اولاد عراق میں رہائش پذیر ہو جائے گی (اور سیاہ (کپڑے) پہننے لگے گی اور اہل خراسان ان کے پیرو اور مددگار ہوں گے تو ان سے یہ چیز (یعنی حکومت) زائل نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ اے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دیں (دارقطنی و کنز العمال)

۵۰- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا یا رسول اللہ

مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔

(کنز العمال بحوالہ ابن عساکر و فصل الخطاب)

۵۱- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مسیح ابن مریم یوم قیامت

سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور لوگ ان کی بدولت دوسروں سے مستغنی ہو جائیں گے۔

(کنز العمال بحوالہ ابن عساکر)

۵۲- حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک

عزبان سب زیادہ محبوب ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا غربا وہ لوگ ہیں جو

اپنا دین بچانے کے لئے فرار ہو کر عیسیٰ ابن مریم سے جا ملیں گے (کنز العمال بحوالہ نعیم بن حماد)

۵۳- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث موصوفہ ہے، تفصیل کے لئے اس کتاب کے شامی ایڈیشن

میں موصوف کے حواشی ص ۲۲۶ تا ص ۲۲۷ ملاحظہ فرمائے جائیں لے یہ حدیث ضعیف ہے تفصیل کے لئے شامی

ایڈیشن میں حاشیہ ص ۲۲۸ ملاحظہ فرمایا جائے لے مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت سے

اسی مضمون کا ارشاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منقول ہے (حاشیہ)

کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد لوگوں میں چالیس سال رہیں گے (مترقاة الصعود) ۱۸۹  
 ۵۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ  
 السلام کے نزول اور وصال کے بعد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک  
 کہ عرب ایک سو بیس سال تک ان چیزوں کی عبادت نہ کر لیں جن کی عبادت ان کے  
 آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔  
 (الاشاعة الاشرط الساعۃ)

۵۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر وصال کو قتل کریں گے اور چالیس سال (دنیا میں)  
 رہیں گے، لوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت  
 کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق (قبیلہ) بنی تمیم کے ایک شخص کو آپ  
 کا خلیفہ مقرر کریں گے، جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر بیس سال  
 گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھایا جا سکے  
 (الاشاعة ص ۲۴۹ بحوالہ کتاب الفتن لابن شیخ ابن حبان)

۵۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا کہ مسیح (علیہ السلام کے نزول) کے بعد زندگی بڑی خوش گو اور ہوگی، بادلوں کو بارش  
 برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس  
 اور چکنے پتھر میں بھی بونڈو گے تو اُگ آئے گا اور (امن و امان کا) یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے  
 پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ

لے بعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد  
 آجائے گی اور مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سو بیس سال ضرور لگیں گے اس سے دونوں  
 روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ حرج ہے کہ اگرچہ ایک سو بیس سال کی مدت ہو مگر یہ ایک بیس سال نہ تشریح گدرا جس گے  
 حتیٰ کہ ایک سال ایک مینہ کی برابر اور ایک مینہ ایک ہفتہ کی برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کی برابر اور ایک دن ایک  
 گھنٹہ کی برابر معلوم ہوگا اوقات میں اس شدید بے برکتی کی پیشین گوئی مستند احمدی ایک حدیث مرفوعہ میں صحیح  
 موجود ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے (حاشیہ) ۱۰ قرآن کریم کے نسخے ۱۲

گزند و ہنچائے گا (لوگوں کے مابین) نہ بخل ہوگا نہ حسد اور نہ کینہ (کنز العمال بحوالہ ابو نعیم) ۵۷۔ حضرت زبیر بن انس البکری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصاریٰ آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا ”ان کا باپ کون ہے؟“ اور اللہ پر بھوٹ بہتان باندھنے لگے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ”کیا تم نہیں جانتے کہ ہر سچے اپنے باپ کے مشابہ (یعنی اس کا ہم جنس) ہوتا ہے؟“ انھوں نے اقرار کیا کہ بے شک (ہم جنس ہوتا ہے) آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور عیسیٰ علیہ السلام پر فناء آنے والی ہے، انھوں نے کہا بیشک ہمیں معلوم ہے الخ (اس حدیث میں آگے وہ دلائل ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ مگر حدیث کا یہ حصہ موضوع کتاب سے خارج ہونے کے باعث مؤلف نے حذف کر دیا ہے ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہیں ۱۲ مترجم)

(الدر المنثور شروع سورۃ آل عمران بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم)

۵۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہونے کے بعد نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ الخ (مشکوٰۃ وابن الجوزی وکنز العمال)

۱۔ معلوم ہوا کہ اموال و ثمرات کی قلت اور آپس کا بغض و عداوت و حقیقت گناہوں کی نحوست سے پیدا ہوتا ہے، چنانچہ زمین ان گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو اس کی برکات ظاہر ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے ۱۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہنے لگے العیاذ باللہ چنانچہ انسان کا بیٹا انسان، حیوان کا بیٹا حیوان اور جن کا بیٹا جن ہوتا ہے، لہذا اگر تعارف اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جائے تو لازم آئے گا کہ عیسیٰ بھی خدا ہوں اور یہ ممکن نہیں اس لئے کہ خدا فانی نہیں ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام پر فناء آنے والی ہے، لہذا وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے ۱۳۔ پوری حدیث تشریح کے ساتھ التقریح کے صلی ایڈیشن میں دیکھی جاسکتی ہے ملاحظہ فرمائیں ۱۲

۵۹۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں (ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) کے برابر میں دفن کیا جائے گا پس ان کی قبر چھپی ہوگی۔ (بخاری فی تاریخہ والطبری فی الورد المنثور)

۶۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے اس وحی کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس نے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے خروج و جال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جو شخص یمن نہ رکھتا ہو کہ اچھی اور بُری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے اس نے کفر کیا، کیونکہ جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص یہ ایمان نہ رکھتا ہو کہ اچھی اور بُری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔

(فصل الخطاب والروض الالف ص ۱۶۰ ج ۱)

۶۱۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ عیسیٰ کو موت نہیں آئی وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف واپس آئیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر سورۃ آل عمران دوسرہ النساء و ابن جریر)

۶۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے"

۱۔ شیخ عبدالفتاح البرقہ دامت برکاتہم نے حافظ ابن حجر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث اپنے رسالہ "العرف الودی فی اخبار المہدی" میں ذکر کر کے اس پر سکوت فرمایا ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "القریحہ بما تواترت فی نزول المسیح" کے شامی ایڈیشن کا حاشیہ ص ۲۴۳ کتاب میں یہ آخری حدیث ہے جسے محدثین نے موضوع قرار دیا ہے اسے ملا کہ کتاب ہذا میں موضوع حدیثوں کی کل تعداد چار ہجرتی حدیث ۲۲، ۳۳، ۳۹، ۴۰۔

۲۔ محدثین کی اصطلاح میں مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تابعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے مگر جس صحابی سے یہ حدیث اس تک پہنچی اس کا نام ذکر نہ کرے۔ رفیع۔

عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے (حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ "یا محمد" کہیں گے تو میں ضرور جواب دُوں گا۔  
(مجمع الزوائد، تفسیر روح المعانی، سورۃ الاحزاب)

۶۳۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں (نازل ہونے کے آئیں) سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد (دنیا میں) انیس سال قیام فرمائیں گے۔ (اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت چالیس سال ہو جائے گی جیسا کہ صحیح احادیث میں گزرا ہے) (فتح الباری بحوالہ النعم بن حنظلہ)  
۶۴۔ حضرت عروۃ بن رُویم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اُمت (محمدیہ) کا بہترین دور دُورِ اَدَل اور دُورِ اَخْر ہے، دُورِ اَدَل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری دور میں عیسیٰ ابن مریم، اور ان دونوں کے مابین (بیشتر لوگ دینی اعتبار سے) بے ڈھنگے کجرو ہوں گے۔ وہ تیرے طریقہ پر نہیں تو ان کے طریقہ پر نہیں۔  
(کنز العمال ص ۲۰۲ ج ۴ بحوالہ علیہ)

۶۵۔ حضرت کعب اجبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اُن کی پیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی چنانچہ اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو (اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے) وفات دُوں گا (پس جب تمہارے لئے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور انی الحال میں تم کو اپنے (عالمِ بالا کی) طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اُٹھاؤں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کانے و جال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کر دو گے) آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی

۱۔ دوسری صحیح احادیث میں صراحت ہے کہ "خیر القرون قرنی ثَم الزین یونہم ثَم الزین یونہم" یعنی سب سے اچھا دور میرا ہے پھر ان لوگوں کا دور ہے جو میرے بعد ہوں گے پھر ان لوگوں کا دور جو ان کے بعد آئیں گے اس سے معلوم ہوا کہ تم کی حدیث میں جس وعدہ کو ٹیڑھا فرمایا گیا ہے صحابہ و تابعین کا وعدا اس میں داخل نہیں رہتا

ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ”ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ؟“  
(الدر المنثور بحوالہ ابن جریر)

۶۶۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث روایت فرمائی جس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ”ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں، بیچ میں مہدی اور آخر میں مسیح (علیہ السلام) ہیں؛ لیکن درمیانی زمانے میں ایک کج نود جماعت ہوگی، وہ میرے طریقہ پر نہیں میں ان کے طریقہ پر نہیں۔“ (مشکوٰۃ)

۶۷۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خوب سن لو عیسیٰ ابن مریم کے اور میرے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول یاد رکھو کہ وہ میرے بعد میری امت (کے آخری زمانہ) میں میرے خلیفہ ہوں گے، یاد رکھو وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور جزیرہ موقوف کر دیں گے، اور جنگ ختم ہو جائے گی، یاد رہے تم میں سے جو ان کو پائے انہیں میرا سلام پہنچا دے۔“  
(الدر المنثور ص ۲۴۲ بحوالہ طبرانی)

۶۸۔ حضرت عمرو بن سفیان تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری مرد نے ایک صحابی کے حوالہ سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ذکر میں فرمایا تھا کہ وہ (مدینہ سے باہر) مدینہ کی بنجر زمین تک آئے گا (کیونکہ) مدینہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ پس مدینہ طیبہ اپنے باشندوں کو ایک یا دو مرتبہ زلزلہ میں مبتلا کرے گا، جس کے نتیجے میں مدینہ سے ہر منافق مرد و عورت نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔

پھر دجال شام کی طرف آئے گا اور شام کے ایک پہاڑ کے پاس پہنچ کر مسلمانوں کو محاصرہ کر لے گا۔  
۱۔ بیچ سے مراد آخری زمانہ سے ذرا پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں (جو پیچھے گز چکی ہیں) صراحت ہے کہ امام مہدی نزول عیسیٰ سے پہلے ظاہر ہوں گے اور نزول سے کچھ بعد تک زندہ رہیں گے۔

۲۔ راوی کو شک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ایک بار“ فرمایا یا ”دو بار“ مگر صحیح بات وہی ہے جو حدیث ۱۳۱ میں گذری کہ یہ زلزلہ تین بار ہوگا (حاشیہ)



اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ دجال سے بچے ہوئے مسلمان اس زمانہ میں شام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ گزین ہوں گے۔ پس دجال اس پہاڑ کے دامن میں اتر کر ان کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو ایک مسلمان (اپنے ساتھیوں سے) کہے گا ”اے مسلمانو تم اس طرح کب تک رہو گے کہ تمہارا دشمن تمہارے اس پہاڑ کے دامن میں پڑا ڈوٹالے رہے؟ (تم اس پر ٹوٹ پڑو کیونکہ تمہیں دو فائدوں میں سے ایک ضرور مل کر رہے گا کہ یا تو اللہ تم کو شہادت عطا کرے گا یا فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ سن کر مسلمان جہاد کی بیعت (عہد) کریں گے، اللہ جانتا ہے کہ ان کی طرف سے وہ بیعت سچی ہوگی۔

پھر ان پر ایسی تاریکی چھائے گی کہ کسی کو اپنا ہاتھ سمجھائی نہ دے گا، اب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی (یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں) اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے ”میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ) جان اور اس کا کلمہ ہوں (یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں) تم تین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو کہ یا تو اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، یا ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان کے اوپر تمہارے اسلحہ مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔

مسلمان کہیں گے ”یا رسول اللہ یہ (آخری) صورت ہمارے لئے اور ہمارے قلوب کے لئے زیادہ طمانیت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل و ڈول والے یہودی کو بھی) دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا پس مسلمان (پہاڑ سے) اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب (عیسیٰ) ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسہ (یا رانگ) کی طرح ٹکھلنے لگے گا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اُسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۰۰)

۶۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ عیسیٰ ابن مریم ایسے آٹھ سو مرد اور چار سو عورتوں میں نازل ہوں گے جو اس وقت کے اہل زمین میں سب سے بہتر اور پھلے (یعنی پھلی امتوں کے) صلحاء سے بھی بہتر ہوں گے۔  
(کنز العمال بحوالہ دیلمی)

۷۰۔ حضرت البربریہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ (پنج وقت) نمازیں پڑھائیں گے اور جمعہ کی نمازیں، اور حلال چیزیں زیادہ کر دیں گے گویا میں انھیں بطور روحانہ کے مقام پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کی سواریاں انھیں حج یا عمرہ کے واسطے لئے جا رہی ہیں۔  
(کنز العمال بحوالہ ابن عساکر)

۷۱۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو اللہ کا دشمن ہے اس طرح نکلے گا کہ اس کے ساتھ یہودیوں اور مختلف اقسام کے لوگوں کی فوجیں ہوں گی، نیز اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوں گی اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنھیں وہ قتل کر کے زندہ کرے گا اور اس کے ساتھ شریک کا ایک پہاڑ اور پانی کی ایک نہر ہوں گی۔ آگے دجال کی علامات اور بعض تفصیلات بیان فرمائیں اور آخر میں فرمایا اور اللہ عیسیٰ ابن مریم کو (اس کے پاس) لے جائے گا حتیٰ کہ وہ اسے قتل کر دیں گے پس اس کے ساتھی ذلیل ہوں گے اور ذلیل ہو کر لوٹیں گے اس حدیث کی سند میں ایک راوی سوید بن عبد العزیز ہیں جو مشرک ہیں۔  
(کنز العمال ص ۲۶۲ ج ۷ بحوالہ نعیم بن حزام)

۱۰۔ پچھلے صلحاء سے کچھ امتوں کے صلحاء بھی مراد ہو سکتے ہیں اور وہ صلحاء بھی جنہوں نے تہذیباً بالینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں گزرے ہیں واللہ اعلم۔ ر۔ ف۔ یعنی ان کی برکت سے حلال چیزوں کی پیداوار بہت زیادہ ہو جائے گی جس کی تفصیل بھی متعدد احادیث میں گزر چکی ہے واللہ اعلم۔ ر۔ ف۔ یعنی روحانہ طور پر اور دیگر دریاں ایک جگہ کا مہا ہے (حاشیہ) ۱۱۔ یعنی اس کی شعبہ بازی سے لوگوں کو ایسا مسلم ہو گا کہ وہ تحقیقاً ایسا نہ کر سکے گا (حاشیہ) ۱۲۔ ایک قسم کا کھانا ہے جو عربوں کے بہترین کھانوں میں شمار ہوتا ہے شہرہ میں روٹی کے ٹکڑے اور گوشت کی بوٹیاں ملا کر بنایا جاتا ہے اور خرید کے پہاڑ کا مطلب یا تو ہے کہ اس کے پاس خریدت بڑی مقدار میں ہو گا یا یہ مطلب ہے کہ خرید جیسے بہت بہترین کھانے بڑی مقدار میں اس کے پاس ہوں گے (حاشیہ) ۱۳۔ مرقہ ظلم نے بقصد انتصاراً تفصیلاً حذیفہ فرمادی ہیں پوری حدیث التشریح کے علی ایضاً میں لکھی جاسکتی ہے۔  
۱۴۔ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ر۔ ف۔

۷۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوراک تو یہی تھی یہاں تک کہ انھیں (آسمان پر) اٹھایا گیا اور انھوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی جو آگ پر پکائی گئی ہو، یہاں تک کہ انھیں (آسمان پر) اٹھایا گیا۔  
(کنز العمال بحوالہ دہلی)

۷۳۔ حضرت سلمہ بن نضیل الشکونی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک (حکم) جہاد منقطع نہیں ہوگا۔  
(سیرۃ المغلطی و مستند احمد)

۷۴۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب انھوں نے بیت المقدس کی زیارت کی اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو "ذبتا" پہاڑ پر چڑھ کر وہاں بھی نماز پڑھی اور فرمایا "یہ وہی پہاڑ ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان اٹھایا گیا" اور عیسائی اس پہاڑ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اب بھی تعظیم کرتے ہیں۔  
(تفسیر فتح العزیز سورۃ مین)

۷۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ خروج دجال کے وقت لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ اس کی پیروی کرے گا، ایک گروہ اپنے آباؤ اجداد کی زمین میں دیہات میں چھا جائے گا، اور ایک گروہ فرات کے ساحل کی طرف چلا جائے گا چنانچہ اس گروہ اور دجال کے درمیان جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مؤمنین شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے پس یہ مومنین فوج کا ایک دستہ دجال کا حال معلوم کرنے کے لئے اس کی طرف بھیجیں گے جس میں ایک شخص بھورے یا چنگرے گھوڑے پر سوار ہوگا۔ یہ سب قتل کر دیئے جائیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آئے گا۔ پھر مسیح علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد زمین میں یا جوج و ماجوج (سمندر کی طرح) مومنین مارتے

۱۔ اس حدیث کو نسائی نے سنن میں بھی روایت کیا ہے (حاشیہ)

۲۔ ایک روایت میں شام کی بستیوں کی بجائے "شام کا مغربی حصہ" ہے (حاشیہ)

ہوئے نکلیں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے۔۔۔ الخ  
(الدر المنثور ص ۲۵۷ ج ۲ بحوالہ ابن ابی شیبہ، وابن ابی حاتم والطبرانی والحاکم وغیرہ)

## آثار صحابہ و تابعین

۱/۶ - اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نزولِ عیسیٰ ابن مریم کی دلیل ہے۔  
(در منثور بحوالہ حاکم وغیرہ)

۲/۶ - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت قرآنیہ ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”قَبْلَ مَوْتِهِ“ کا مطلب ہے ”عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے“ (اسی لئے یہ آیت نزولِ عیسیٰ کی دلیل ہے جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بیان ہوا)  
(در منثور بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

۳/۸ - آیت قرآنیہ ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”یعنی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں کے بہت سے لوگ نزولِ عیسیٰ کا زمانہ پائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے اور

لے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں تک ذکر کی ہے کیونکہ یہی حصہ موضوع کتاب سے متعلق تھا حدیث کے باقی حصے میں علامات قیامت، اور قیامت کے بعد عالم آخرت کے حالات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں حلب کے ایڈیشن میں شیخ عبدالفتاح ابو غدہ دامت برکاتہم نے حصہ بھی شامل کتاب کروا ہے وہاں اس کی مراجعت کی جاسکتی ہے۔ رفیع لے ہمارا ذکر کی جمع ہے محدثین کی اصطلاح میں صحابہ و تابعین کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے ۱۲ ص ۳۰۷ نساہ آیت ۱۵۱، ترجمہ ہے ”تمام اہل کتاب ان کی (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی) موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے“ یہ کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آئندہ زمانہ میں موت آئے گی، اور ظاہر ہے کہ موت دنیا میں نازل ہونے کے بعد ہی آئے گی آسمان پر نہیں اس لئے کہ سورۃ ازلہ میں ارشاد ہے ”مِمَّا خَلَقْتُمْ وَفِيهَا نَسْتَكُمُ“ یعنی تم سب انسانوں کو ہم نے زمین سے (بواسطہ آدم) پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، ”یعنی مَوْتِهِ“ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے ۱۲

چونکہ اُس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعتِ محمدیہ کے تابع ہوں گے لہذا ان پر ایمان لانے کا حاصل یہ ہوگا کہ اس وقت تمام نصاریٰ اور وہ یہودی جو قتل سے بچ رہیں گے مسلمان ہو جائیں گے (درمنثور بحوالہ ابن جریر)

۴۹۔ آیت قرآنیہ ”وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی تفسیر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ

نے واضح رہے کہ اس آیت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے دو طرح منقول ہے، ایک وہ جو پچھلی تین حدیثوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان ہوئی کہ ”قَبْلَ مَوْتِهِ“ میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”نزدول عیسیٰ کے بعد ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوں گے ان پر ایمان لے آئیں گے“ یہی تفسیر حدیث ۱۱۱ کے ضمن میں بھی کتاب کے بالکل شروع میں بروایت حضرت ابو ہریرہ بیان ہو چکی ہے۔ اس تفسیر کی رو سے یہ آیت ”نزدول عیسیٰ کی دلیل ہے جیسا کہ سچھے بیان ہوا۔“

اور دوسری تفسیر حضرت محمد ابن الحنفیہ نے بیان فرمائی جو یہاں مذکور ہے اس تفسیر کی بنیاد اس پر ہے کہ ”قَبْلَ مَوْتِهِ“ میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ ”أَهْلِ الْكِتَابِ“ کی طرف راجع ہے لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ”اُسندہ ہر یہودی اور نصرانی اپنے مرنے سے ذرا پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔“ یعنی اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہ آئی تھی بلکہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا جہاں وہ پھر دنیا میں نازل ہوں گے اور وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تفسیر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا ہے اس تفسیر کی رو سے یہ آیت قرآنیہ ”نزدول عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل نہیں بن سکتی (اگرچہ دوسرے قطعی دلائل کے باعث ”نزدول عیسیٰ“ ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے)۔“

مگر اس تفسیر پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ اس آیت کے ”نزدول“ کے بعد جتنے یہودی اور نصرانی بھی مرے سب مؤمن ہو کر مرے کوئی بھی حالت کفر پر نہیں مرا، حالانکہ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے؛ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہی اعتراض حجاج بن یوسف نے حضرت شہر بن حوشب کے سامنے پیش کیا تھا انھوں نے اس کا جواب دیا وہ بھی اگلی حدیث میں آ رہا ہے وہیں اس کی تشریح بھی آئے گی ۱۲۔

فرماتے ہیں کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے ہر ایک کے پاس (اس کی موت سے ذرا پہلے) فرشتے آکر اس کے چہرے اور پشت پر مارتے ہیں، پھر اُس سے کہا جاتا ہے۔ ”اد خدا کے دشمن عیسیٰ اللہ کی (پیدا کردہ) جان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ (گنہ کی پیدائش) ہیں، اللہ کے مقابلہ میں تیرا یہ کتنا بھڑٹ ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں (یا اور کھ کہ) انھیں موت نہیں آئی بلکہ انھیں آسمان پر اُٹھایا گیا تھا اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں۔“  
یہ سن کر ہر یہودی اور نصرانی اُن پر ایمان لے آتا ہے (یعنی اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تھی، وہ نازل ہونے والے ہیں، اور وہ خدا ہیں خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں) (در منثور)

۵۔ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حجاج (بن یوسف) نے مجھ سے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے ایک اشکال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِمْ“ جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، حالانکہ میرے پاس (یہودی اور نصرانی) قیدی لائے جاتے ہیں اور میں انھیں قتل کرتا ہوں مگر میں انھیں کچھ کہتے ہوئے (یعنی کلمہ ایمان پڑھتے ہوئے) نہیں سنتا؟ میں نے اُسے جواب دیا کہ اس آیت کا مطلب تمھیں صحیح نہیں بتایا گیا۔

بات یہ ہے کہ جب کسی نصرانی کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اُسے آگے اور پیچھے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ”او تمبیٹ! (حضرت) مسیح علیہ السلام، جن کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا تین خداؤں میں کے ایک ہیں وہ درحقیقت اللہ کے بندے اور ”روح اللہ ہیں“ یہ سن کر وہ ایمان لے آتا ہے (یعنی مذکورہ بالا امور کا یقین کر لیتا ہے) مگر اس وقت کا ایمان اس کے لئے مفید نہیں ہوتا کیونکہ نزع کے وقت جب کہ موت

۱۔ یعنی کلمہ کن ادا ان کی ولادت کے درمیان باپ کا واسطہ نہیں۔

۲۔ ان کے ایمان لانے کا مطلب اگلی حدیث اور اس کے حاشیہ میں بیان ہوگا۔

کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو بہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اُس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور جب کسی یہودی کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اُسے بھی آگے اور پیچھے سے مارنے میں اور کہتے ہیں ”ادنجیبت! (حضرت) مسیح (علیہ السلام) جن کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ تم (یہودیوں) نے انھیں قتل کر دیا تھا وہ درحقیقت اللہ کے بندے اور روح اللہ ہیں یہ سن کر یہودی بھی اُن پر ایمان لے آتا ہے (یعنی مذکورہ بالا امور کا یقین کر لیتا ہے) مگر اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہوتا۔

پس نزول عیسیٰ کے بعد (جب دجال قتل ہو جائے گا) جتنے یہودی اور نصرانی زندہ باقی ہوں گے سب اُن پر ایمان لے آئیں گے جس طرح کہ اُن کے مُردے اپنی اپنی موت کے وقت ایمان لاتے رہے تھے (مگر دونوں میں بڑا فرق ہوگا کہ مُردوں کا ایمان معتبر و مقبول نہیں تھا اور زندہ لوگوں کا معتبر ہوگا)۔

یہ سن کر حجاج نے مجھ سے پوچھا کہ (اس تفصیل کے ساتھ آیت کی) یہ تفسیر تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا ”محمد بن علیؑ سے“ کہنے لگا ”تم نے یہ اُس کے اصلی مقام سے حاصل کی ہے“

حضرت شہر بن حوشبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علیؑ کا حوالہ اسے جلائے کے لئے دے دیا تھا ورنہ بخدا یہ تفسیر مجھے (سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ ہی نے سنائی تھی۔  
در منثور سجوالہ ابن المنذر۔

۶۱۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَإِنَّ قُرْآنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“

لے نیز ایمان کے لئے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے جو وہ نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ اس کی موت حالت کفر ہی میں شمار ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اتفاقاً نزاع کی حالت سے پہلے پہلے ایمان لے آئے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے تو اس کا ایمان معتبر ہے اور شرعاً اُسے مومن قرار دیا جائے گا۔ ۲۷۔ کہو نہ کہ حجاج بن یوسف حضرت علیؑ کو ام اللہ و جہد اور ان کی اولاد سے سیاسی اختلاف رکھتا تھا۔ ۲۸۔ حضرت شہر بن حوشبؓ نے یہ تفسیر پہلے، صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنی ہوگی پھر محمد بن الحنفیہؓ سے اس کی تفصیلات سنی ہوں گی جو اوپر بیان نہیں اس لئے حضرت محمد بن الحنفیہؓ کا حوالہ دینا بھی واقعہ کے خلاف نہیں۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا“ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تمام ادیان و مذاہب کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب پر انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی یعنی یہود اور جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا تھا یعنی نصاریٰ (گو اہی دیں گے کہ میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر انہوں نے میری تکذیب کی) اور میں نے ان کے سامنے اپنے بارے میں اقرار کیا تھا کہ اللہ کا بندہ ہوں (مگر انہوں نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا) (درمشور سجالہ عبدالرزاق و عبد بن مجید وغیرہ)

۸۲ - حضرت ابن زید (جو جلیل القدر تابعی اور امام مالک و امام زہری کے استاذ ہیں) آیت قرآنیہ ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد وصال کو قتل کر دیں گے تو دنیا کے تمام یہودی (جو جنگ میں قتل ہونے سے بچ گئے ہوں گے) ان پر ایمان لے آئیں گے۔ (ابن جریر)

۸۳ - حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ (جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں) آیت قرآنیہ ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نزولِ عیسیٰ ابن مریم کے بعد جو یہودی یا نصرانی بھی زندہ بچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ (ابن جریر)

۸۴ - حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (مشہور تابعی) آیت قرآنیہ ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قبلِ مَوْتِهِ“ کا مطلب ہے ”عیسیٰ کی موت سے پہلے“ بخدا وہ اس وقت اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور جب نازل ہوں گے تو ان پر سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ (ابن جریر)

۸۵ - حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی سے کسی نے آیت قرآنیہ ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قبلِ مَوْتِهِ“ کا مطلب ہے ”عیسیٰ کی موت سے پہلے“ بخدا وہ اس وقت اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور جب نازل ہوں گے تو ان پر سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ (ابن جریر)

۱۱ طبقة تابعین کے مشہور و معروف محدث، مفسر اور فقیہ - ۱۲

۱۲ یعنی ”مَوْتِهِ“ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہے ۱۲



أَهْلِي أَنْ كَتَبَ إِلَّائِي وَمَنْ يَدِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ (قَبْلَ مَوْتِهِ کا مطلب ہے) ”عیسیٰ کی موت سے پہلے“ بیشک اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس (زندہ) اٹھالیا تھا، اور وہی ان کو قیامت سے پہلے (دنیا میں) ایسے مقام پر بھیجے گا کہ ان پر ہرنیک و بدایمان لے آئے گا۔ (درمنثور بحوالہ ابن ابی حاتم)

۱۱۶۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس باہر تشریف لائے اس وقت اس گھر میں بارہ حواریین موجود تھے، آپ اُن کے پاس ایک چشمہ سے (غسل کر کے) تشریف لائے تھے جو اسی گھر میں سے بہتا تھا، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے الخ (درمنثور ص ۲۳۶ بحوالہ نسائی وغیرہ)

۱۲۶۔ آیت قرآنیہ ”وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ“ الخ (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ، اور (یہود کو ہم نے اس وجہ سے بھی سزا دی کہ) انھوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قتل کر دیا ہے حالانکہ انھوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ (خود) یہودیوں کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، اُن کے پاس اس پر کوئی (صحیح) دلیل نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف (یعنی آسمان) پر اٹھالیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے حکمت والے ہیں (کہ اپنی قدرت و حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اٹھالیا)۔

۱۳۔ اب تک کی تمام احادیث نزول عیسیٰ سے متعلق تھیں اگرچہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر بھی کہیں کہیں ضمناً آ گیا تھا، یہاں سے حدیث ۱۱۶ تک کی احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے ہی کا ذکر ہے۔ نزول عیسیٰ کا نہیں۔ ۱۳ آگے حدیث طویل ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی تفصیل اور پھر اہل کتاب کے مختلف عقائد اور فرقوں کا بیان ہے، مگر مؤلف نے یہاں حدیث کا صرف وہ حصہ ذکر کیا ہے جس کا تعلق زیر بحث مضمون سے ہے جن حضرات کو پوری حدیث دیکھنے کی خواہش ہو وہ صلب کا ایڈیشن ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”اِنَّ اللہَ کے دشمن یہودیوں کو قتل عیسائی پرناز تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسائی کو قتل کر دیا ہے اور سولی پر چڑھا دیا ہے، حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسائی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے کون اس کے لئے تیار ہے کہ اُسے میرے مشابہ بنا دیا جائے، پھر وہی قتل ہو؟“ اُن میں سے ایک صاحب نے کہا ”یا نبی اللہ میں اس کے لئے تیار ہوں“ پس اسی شخص کو (حضرت عیسائی علیہ السلام کے شبیر میں) قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور اوپر (آسمان میں) اٹھالیا۔ (درمنثور ص ۲۳۸ ج ۲ بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

۱۳/۸۸۔ ارشادِ خداوندی ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا“ کی تفسیر میں (مشہور تابعی) حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسائی علیہ السلام کے بجائے ایک اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا جسے وہ عیسائی سمجھے، اور عیسائی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف (یعنی آسمان پر) زندہ اٹھالیا۔ (درمنثور بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

۱۴/۸۹۔ حضرت ابو رافع (مشہور تابعی) فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو (آسمان پر) اٹھایا گیا اُس وقت اُن کے پاس ایک ادنیٰ کپڑا تھا، دو چرمی موزے تھے جو چرواہے پہنتے ہیں، اور ایک حذافہ تھا جس سے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ (درمنثور بحوالہ مسند احمد وغیرہ)

۱۵/۹۰۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو (آسمان پر) اٹھایا گیا تو انھوں نے اپنے پیچھے صرف یہ چیزیں چھوڑیں۔ ایک ادنیٰ کپڑا، دو چرمی موزے جو چرواہے پہنتے ہیں، اور ایک حذافہ جس سے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ (درمنثور بحوالہ مسند احمد وغیرہ)

۱۶/۹۱۔ حضرت عبد الجبار بن عبد اللہ (تابعی) فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عیسیٰ ابن مریم کو (آسمان پر) اٹھایا گیا۔ آپ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ”کتاب اللہ کے

۱۔ ایک آکر جس سے پرندوں کو مار کر شکار کیا جاتا ہے۔ (حاشیہ)

۲۔ جلیل القدر تابعی ہیں اور علم قرأت میں صحابہ کے بعد سب سے بڑے عالم قرار دیئے گئے ہیں (حاشیہ)

بدلے میں اجرت لے کر مت کھاؤ، کیونکہ اگر تم نے اس سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے منبروں پر بٹھائے گا جن کا پتھر دنیا دہا میں سے بہتر ہے۔

حضرت عبد الجبار فرماتے ہیں یہ وہی منبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔  
 ”فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ“ اور (اس خطاب کے بعد) حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 (آسمان پر) اٹھائے گئے۔  
 (در المنثور بحوالہ ابن مسعود)

۹۲۔ ارشاد خداوندی ”وَ اِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَاعَةِ“ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خروج (نزول) کے بارے میں ہے (یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے) (الدر المنثور بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم والطبرانی وغیرہ)  
 ۱۸۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ”وَ اِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَاعَةِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نزول عیسیٰ ہے۔  
 (در المنثور بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

۱۹۔ یعنی (متقین) ایک عمدہ مجلس میں ہوں گے قدرت والے بادشاہ (اللہ تعالیٰ) کے پاس یہ سورۃ زخرف کی آیت ۶۱ کا ایک حصہ ہے اس کے لفظ ”لَعَلَّمُ“ میں دو قرأتیں ہیں اور دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ایک قرأت میں اسے ”لَعَلَّمُ“ پڑھا گیا ہے (یعنی عین اور دوسرے لام پر فتح ہے) اور حدیث میں یہی قرأت مذکور ہے۔ اور ”لَعَلَّمُ“ کے معنی علامت کے ہیں لہذا اس قرأت کی رو سے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام (یعنی ان کا نزول) قیامت کی ایک علامت ہے۔ آگے حدیث ۱۱۱ میں آیت کی یہ تفسیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے اور دوسری قرأت میں یہ لفظ ”لَعَلَّمُ“ (عین مکسور اور لام ساکن) ہے جمود قرأت کی قرأت یہی ہے، اس قرأت کی رو سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں“

یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے وہ قیامت واقع کرنے پر بھی قادر ہے۔

اس قرأت کے اعتبار سے یہ آیت نزول عیسیٰ کی بجائے ان کی پیدائش سے متعلق ہے (حاشیہ)

۱۹/۹۳۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلشَّاعِرِ“ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”علیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامت ہے اور کچھ لوگ (اس آیت کا مطلب) یہ بیان کرتے ہیں کہ ”قرآن قیامت کی علامت ہے“  
(درمنثور ص ۲۰ ج ۶ بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

۲۰/۹۵۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ارشاد خداوندی ”وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلشَّاعِرِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے (درمنثور ص ۲۱ بحوالہ ابن جریر)  
۲۱/۹۶۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد خداوندی ”وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلشَّاعِرِ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔  
(درمنثور ص ۲۲ ج ۶ بحوالہ ابن جریر)

۲۲/۹۷۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا“ کی تفسیر میں حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گوارے یعنی بالکل بچپن میں تو (بطور مجرہ) باتیں کر چکے ہیں، اور جب (نازل ہو کر) (جہاں کو قتل کریں گے) اس وقت بھی لوگوں سے باتیں کریں گے، اس وقت وہ کسولت کی عمر میں ہوں گے (درمنثور ص ۲۵ ج ۲ بحوالہ ابن جریر)  
۲۳/۹۸۔ حضرت وہب ابن منبہ کا ایک طویل ارشاد مروی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں کا گمان ہے کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا تھا،

یعنی بعض لوگ ”انما“ کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے قرآن کو قرار دیتے ہیں، مگر اس تفسیر کو حافظ ابن کثیر نے صحیح قرار نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر چل رہا ہے، قرآن کا وہاں ذکر نہیں ہے (حاشیہ)

۵۔ سورہ آل عمران رکوع ۵ یہ آیت اس بشارت کا ایک حصہ ہے جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ نے پہنچائی کہ تمہارے وطن سے ایک بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ پھر اس کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے ”يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا“ یعنی وہ لوگوں سے (مجورے کے طور پر بالکل بچپن میں) باتیں کرے گا جبکہ وہ ماں کی گود میں ہوگا اور اس وقت بھی باتیں کرے گا جب کہ پوری عمر کا ہوگا۔ سہ چنانچہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں وہ باتیں بھی مذکور ہیں۔

نصاری کو بھی یہی گمان ہو گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی روز عیسیٰ علیہ السلام کو (آسمان پر) اٹھا لیا تھا۔  
(درمنثور ص ۲۳۹، ۲۴۰ ج ۲)

۲۴/۹۹ - حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے جد جہشی (مقابلہ کے لئے) نکلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت ان کے مقابلہ کے لئے بھیجیں گے، چنانچہ حبشیوں کو شکست ہو جائے گی۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری ص ۲۳۳ ج ۹)

۲۵/۱۰۰ - آیت قرآنیہ ”إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ كَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ شَدِيدٌ“  
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ”تیرے یہ بندے (نصاری) اپنی (غلط) باتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، پس اگر آپ ان کو سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرمادیں یعنی ان میں سے

لے کتاب البحر باب قول اللہ تعالیٰ ”جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْرَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ“ المائدہ سورہ ماہہ ذکر عذاب آخرت میں جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا نصاریٰ کو عقیدہ تثلیث کی تعلیم آپ نے دی تھی تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باطل عقیدے سے اپنی برادرت پیش کریں گے اور عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا اُس وقت تک تو میں ان کے حال سے واقف تھا پھر جب آپ نے مجھے اٹھایا تو آپ ہی ان کے حال پر مطلع رہے، اُس وقت کی مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا، پھر عرض کریں گے کہ ”إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ كَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ شَدِيدٌ“ المائدہ یعنی اگر آپ ان کو عقیدہ تثلیث پر سزا دیں تو (جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ) یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو صاف فرمائیں تو (جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ) آپ زبردست (قدرت والے) ہیں (تو صافی پھر بھی قادر ہیں اور حکمت والے ہیں) تو آپ کی صافی بھی حکمت کے موافق ہوگی، یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک اشکال و دور کرنا چاہتے ہیں جو مذکورہ بالا آیت کے ظاہری معنیوں سے پیدا ہو سکتا تھا، اشکال یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں نصاریٰ کے لئے سزا کا پہلو ہے حالانکہ نصاریٰ مشرک ہیں اور مشرک کے لئے شفاعت اور دعائے مغفرت جائز نہیں؟ اس کے متعلق جو بات مفسرین نے نقل فرماتے ہیں مگر جو جواب حضرت ابن عباس نے یہاں دیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت (بقیہ صفحہ ۱۰۹ پر)

اُن مومن لوگوں کی مغفرت فرمادیں جن کو میں نے (آسمان پر جاتے وقت دنیا میں) پھوڑا  
 تھا اور (اُن لوگوں کی بھی) جو اُس وقت زندہ تھے جب کہ میں قتل و جہال کے لئے اُس  
 سے زمین پر نازل ہوا اور اُس وقت انھوں نے اپنے دعویٰ (تثلیث) سے توبہ کر لی  
 اور آپ کی توحید کے قابل ہو گئے اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم سب (اللہ کے)  
 بندے ہیں، تو اگر آپ ان کی اس بنا پر مغفرت فرمادیں کہ انھوں نے اپنے دعویٰ  
 (تثلیث) سے توبہ کر لی تو (جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ) آپ قدرت والے (اور  
 حکمت والے) ہیں۔  
 (الدر المنثور ص ۳۵۰ ج ۲)

۱۰۱۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جُذام کے وفد سے  
 فرمایا کہ ”شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا (یعنی تمھارا)  
 بقیہ حاشیہ ص ۱۵: عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سفارش اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے تمام نصاریٰ  
 کے لئے ہے لیکن مراد خاص قسم کے نصاریٰ ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

حاشیہ صفحہ ۱۰۹

۱۔ خلاصہ یہ کہ یہ سفارش سب نصاریٰ کے لئے نہیں بلکہ صرف دو قسم کے نصاریٰ کے لئے ہوگی،  
 ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع مساوی کے وقت موجود تھے اور دین عیسائیت پر  
 ایمان رکھتے تھے تثلیث وغیرہ کا فزانہ عقائد کے قابل نہ تھے تو مومن ہونے کی وجہ سے ان کے لئے  
 سفارش میں کوئی اشکال نہیں اور دوسرے وہ نصاریٰ جو زردوں عیسیٰ کے بعد اُن پر ایمان لے آئے  
 اور تثلیث وغیرہ غلط عقائد سے توبہ کر کے مشرت باسلام ہو گئے مگر یہ سفارش اُن نصاریٰ کے  
 لئے نہ ہوگی جن کی موت حالت کفر میں ہوئی واللہ اعلم

۲۔ قبیلہ جُذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ کی سسرال ہونا قرآن حکیم (سورہ قصص)  
 سے ثابت ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جُذام کی کسی خاتون  
 سے نکاح فرمائیں گے اور ان کے اولاد بھی ہوگی اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ  
 السلام کی سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ۔

آنا مبارک ہو۔ اور قیامت اُس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ مسیح علیہ السلام  
تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کے اولاد پیدا نہ ہو۔

(المخطوط ص ۳۵۰ ج ۲)

۱۰ علامہ مقرئینیؒ کی مشہور کتاب "المخطوط المقرئیة" میں یہ حدیث اسی طرح ہے مگر افسوس کہ  
انہوں نے اس کی سند ذکر نہیں کی، صرف "البیہوی" سے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، سو اتفاق  
سے شیخ عبدالقناح ابو عذہہ مظلوم کو بھی اس کی تحقیق و تخریج کا موقع نہ مل سکا، احمق نے کتب حدیث  
میں اس کو تلاش کیا، اصل حدیث تو کئی کتابوں میں سند کے ساتھ مل گئی مگر حدیث کا آخری جملہ "اور  
قیامت اُس وقت تک الخ" سوائے المخطوط کے اب تک کسی کتاب میں نہیں ملا، اصل حدیث  
سلمہ بن سعدؒ سے مندرجہ ذیل کتابوں میں مرفوعاً موجود ہے۔

مجمع الزوائد ص ۵۱ ج ۱۰۔ کنز العمال ص ۲۰۹ ج ۶۔ مجمع الفوائد ص ۵۹۱ ج ۲۔ تفسیر

ابن کثیر ص ۲۸۳ ج ۲۔ الاستیعاب لابن عبدالبر سہامش الاصابہ ص ۸۹ ج ۲۔ الاصابۃ لابن  
جریر ص ۶۲ ج ۲۔ حدیث کا کچھ حصہ اسد الغابہ میں بھی ہے ص ۳۳۷ ج ۲ فی ذکر سعد بن سلمہ علیہ

## تتمہ

اصل کتاب ایک سو ایک حدیثوں پر مشتمل تھی، پھر فضیلۃ الشیخ حضرت عبدالفتح ابو غدہ دامت برکاتہم کو اس کتاب کی شرح و تحقیق کے دوران ”زود علیٰ علیہ السلام“ کے بارے میں مزید بلیغ حدیثیں مختلف کتب حدیث سے دستیاب ہوئیں جو انہوں نے حلبی ایڈیشن میں ”تتمہ واستدراک“ کے عنوان سے اضافہ فرمائیں، ان میں وسوس احادیث مرفوعہ تھیں اور دوسرے موقوف (یعنی آثار صحابہ و تابعین) یہاں ترجمہ صرف پندرہ رسات مرفوعہ اور آٹھ موقوف مستند احادیث کا کیا جا رہا ہے، باقی پانچ میں سے تین ضعیف تھیں اور دوسرے مجمل، اس لئے انہیں ترجمہ میں شامل نہیں کیا گیا۔

## مزید احادیث مرفوعہ

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ وہ خندق کے درمیان ہوگا (کیونکہ اُس وقت مدینہ کے ہر درے پر طائر پہرہ دے رہے ہوں گے، پس سب سے پہلے عورتیں اُس کی پیروی کریں گی، اور جب لوگ اُسے پریشان کریں گے تو غصہ میں واپس ہو جائیگا یہاں تک کہ وہ خندق پر ٹھہرے گا، پھر جب فلسطین پہنچ کر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا تو) عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ (مجمع الزوائد ص ۲۴۹ ج ۲ بحوالہ ابو یوسف طبرانی)

۲۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْسَاعَةِ كِتَابَہٗ كِی تَفْہِمُہٗم رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ اِس سے لے کر محمد بن ابی اسحاق کے اصحاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کو ”حدیث مرفوعہ“ اور صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال اور احوال کو ”حدیث موقوفہ“ کہا جاتا ہے، حدیث موقوفہ کو ”حدیث مرفوعہ“ بھی کہتے ہیں۔

۳۔ ان کے ضعف کی صراحت خود شیخ عبدالفتاح مدظلہم نے دی ہے کہ وہی ہے۔ رفیع

۴۔ تحقیق نہ ہو سکی کہ یہ کونسی خندق ہے اور کہاں؟ رفیع



مراد نزولِ عیسیٰ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ (صحیح ابن حبان)

۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے ”آئیے ہمیں نماز پڑھائیے“ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ”نہیں، تم اُمتِ محمدیہ ہیں سے بعض بعض کے امیر ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس اُمت کا اعزاز ہے۔“

(المحاوی للسیوطی ص ۶۴ ج ۲ بحوالہ اخبار المہدی لابن نعیم)

۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری اُمت میں سے ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم طلوع فجر کے وقت بیت المقدس میں نازل ہو جائیں، وہ مہدی کے پاس آئیں گے پس کہا جائے گا ”دیا نبی اللہ آگے“ اگر ہمیں نماز پڑھائیے“ وہ فرمائیں گے ”اس اُمت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں (لہذا تم بھی نماز پڑھا سکتے ہو اور تم ہی پڑھاؤ)۔“

(المحاوی ص ۸۳ ج ۲ بحوالہ سنن ابن عمر والدانی)

۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری اُمت میں سے ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں، پس اُن کا امام (مہدی) کہے گا ”آگے آئیے“ اور نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے ”تم زیادہ حق دار ہو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں یہ اعزاز اس اُمت کو بخشا گیا ہے۔“ (اقامۃ البرہان للشیخ الغراری ص ۴۰ بحوالہ ابن حجر علیہ السلام)

۶۔ حضرت حفص بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مہدی مڑ کر دکھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہو چکے ہوں گے۔ گویا ان کے بالوں

لہ زیادہ حق دار ہونے کی وجہ اگلی حدیث میں بیان ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اُس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی اُمت کے لئے آگے بڑھ چکے ہوں گے لہذا مناسب یہی ہوگا کہ اُمت دعویٰ کریں اس سے ایک اویس یہ معلوم ہو کہ جب کسی جماعت کا مستقل امام نازل نہ ہو جانے کے لئے آگے بڑھ چکا ہو افاقا اُمت بھی ہو چکی ہو پھر کوئی ایسا شخص آجہائے جو زیادہ افضل ہے تو اس آنے والے کو چاہئے کہ خود اُمت نہ کرے بلکہ خود اسی امام کے پیچھے نازل ہو۔ ریح

سے پانی ٹپک رہا ہو، پس مہدی کہیں گے ”آگے آکر نماز پڑھائیے“ عیسیٰ فرمائیں گے ”اس نماز کی اقامت تمہارے لئے ہو چکی ہے (لہذا یہ نماز تو تم ہی پڑھاؤ) پس عیسیٰ (علیہ السلام) ایک ایسے شخص (مہدی) کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو میری اولاد میں سے ہوگا۔

(الحادی ص ۸۱ ج ۲ بحوالہ سنن ابی عمر والدینی)

۱۰۸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وَجَالِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ“ (وَجَالِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ) اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اُس (وَجَالِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ كَيْدِ هَمِّهِ) کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد لوگ چالیس سال تک زندگی سے، اس طرح نطفہ اندوز ہوں گے کہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا (جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی حسی کہ) آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا ”جاؤ گھاس وغیرہ چرو (یعنی چرنے کے لئے انھیں بغیر چروا ہے کے بھیج دے گا) اور وہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گذرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی (بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہی کے لئے ہیں تاکہ رات کا نقصان نہ ہو) اور سانپ اور بچھو کسی کو نہ زندہ پہنچائیں گے، اور زندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو ایذا نہ دیں گے اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی ایک مد گندم بوئے گا تو اُس سے سات سو مد گندم پیدا ہوگا۔

پس لوگ اسی خوشحالی میں بسر کر رہے ہوں گے کہ یا جوج و ماجوج کی دیوار دھوکہ ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی تو ٹوڑی جائے گی۔ اب وہ موج در موج (نکل کر زمین میں فساد برپا کریں گے) پس اللہ زمین سے ایک جانور مستط کرے گا جو ان کے کانوں میں گھس جائیگا اُس سے وہ سب کے سب مرجائیں گے اور زمین اُن (کی لاشوں سے متعفن ہو جائے گی) پس لوگ ان کے تعفن سے پریشان ہو کر اللہ سے فریاد کریں گے، تو اللہ ایک غبار آلود یعنی ہوا بھیجے گا اور تین دن بعد (اُس کے ذریعہ) اُن کی تکلیف اس طرح دور کرے گا کہ

لہ مدّ ایک پیمانہ ہے جو عدد رسالت میں رائج تھا ہمارے وزن کے حساب اس کا وزن ۳ اچٹا تک ہے اور ۳ تولہ ہوتا ہے (رسالہ اوزان شرعیہ) لہ اور جس کا ذکر سورہ کف کے آخر میں قدرے تفصیل سے آیا ہے۔

یا جوج ماجوج کی لاشیں سمندر میں پھینکی جا چکی ہوں گی۔ اور (اس کے بعد) لوگوں پر تھوڑی سی مدت گذرے گی کہ آفتاب مغرب سے نکل آئے گا (الحادی ص ۸۹ ج ۲ بحوالہ مستدرک حاکم)

## مزید آثار صحابہ و تابعین

۱۰۹ - حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جب سے دنیا وجود میں آئی کوئی صدی ایسی نہیں گذری جس کے شروع میں کوئی اہم واقعہ نہ ہوا ہو پس وصال (بھی) کسی صدی کے آغاز پر نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اُسے قتل کریں گے۔

(الحادی ص ۸۹ ج ۲ بحوالہ تفسیر ابن ابی حاتم)

۱۱۰ - حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”عیسیٰ ابن مریم (امام) مہدی کے پاس نازل ہوں گے اور عیسیٰ (علیہ السلام) اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔“

(الحادی ص ۸۸ ج ۲ بحوالہ نعیم بن حماد)

۱۱۱ - حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ (مشہور تابعی اور امام حدیث) فرماتے ہیں کہ (امام) مہدی اسی امت (محدثیہ) میں سے ہوں گے اور یہ وہی ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی امامت کریں گے۔

(الحادی ص ۶۵ ج ۲ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ)

۱۱۲ - حضرت اڑطاة رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد منقول ہے (جس کے آخر میں ہے) کہ ”پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی ظاہر ہوگا جو نیک سیرت ہوگا (اور) قیصر روم کے شہر (قسطنطنیہ) پر لشکر کشی کرے گا، وہ (عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کا سب سے آخری امیر ہوگا۔ پھر اسی کے زمانہ میں وصال نکلے گا اور اسی کے زمانہ میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔“

(الحادی ص ۸۰ ج ۲ بحوالہ کتاب الفتن لابن نعیم)

۱۱۳ - حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ (ملک شام کے بارے میں) فرماتے ہیں کہ ”لوگ وہیں پر ایک جان ہو کر جمع ہوں گے اور وہیں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہیں اللہ مسیح کذاب (و جبال) کو ہلاک کرے گا۔ (تاریخ دمشق لابن عساکر ص ۶۰ ج ۱)

۶۱۳ حضرت کعب اجمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”مسح علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازہ پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہو گا وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے جسم پر دو طاقم کپڑے ہوں گے جن میں سے ایک کو تڑ بند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرے چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا، جب سر جھکائیں گے تو اُس سے چاندی کے موتی (کی طرح پائی کے قطرے) ٹپکیں گے۔  
(تاریخ دمشق لابن عساکر ص ۲۱۸ ج ۱)

۷۱۵ حضرت کعب اجمار ہی فرماتے ہیں کہ وہ جمال بیت المقدس میں مؤمنین کی محاصرہ کرے گا جس سے وہ سخت بھوک کا شکار ہوں گے حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے وہ اپنی کمانوں کی تانت کھانے لگیں گے، پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک صبح کی تاریکی میں ایک آواز سنیں گے تو کہیں گے ”یہ تو کسی شکم میر آدمی کی آواز ہے، پس وہ نظر

لے حضرت کعب اجمار کبار تابعین میں سے ہیں ان کی وفات ۳۲ھ یا ۳۳ھ میں ہوئی جب کہ ان کی عمر ۱۰۴ سال تھی، انھوں نے عہد رسالت دیکھا ہے مگر مشرف بہ اسلام حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ہوئے۔ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کی کتابوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کیا کرتے تھے، مجبوراً ان کو ثقہ قرار دیا ہے حافظ ذہبی نے ان کو ”کربطقات الحقائق“ میں کیا ہے اور کتب الضعفاء میں ان کو ذکر نہیں کیا جاتا مگر جرح حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کئے بغیر بیان کریں جیسا کہ یہاں ہے اس میں محدثین کو یہ شبہ رہتا ہے کہ کہیں انھوں نے اسرائیلی روایت نہ بیان کر دی ہو بعض صحابہ کرام کو بھی ان کے بارے میں یہ شبہ تھا، اس لئے محققین ان کی روایت پر پورا اعتماد اُسی وقت کرتے ہیں جب کہ اُس کی تائید کسی متبر و مستند حدیث سے ہو جائے دیکھئے مقالات الکثریٰ از ص ۳۱ تا ۳۵ یہاں حدیث ۱۱۳ تا ۱۱۶ انہی کی روایات ہیں اور ان میں انھوں نے ان احادیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، مگر ان روایات کا بیشتر معنون دوسری مستند احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے جو صحیحہ گذری ہیں اور جو معنون مستند احادیث مرفوعہ سے ثابت نہیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو احتمال ہے یہ ہے کہ وہ کسی اسرائیلی روایت کا معنون ہو اور اسرائیلیات کے بارے میں قائلہ یہ ہے کہ ان میں سے جس روایت کی تصدیق یا تکذیب قرآن و سنت سے نہ ہوتی ہو اُس کے بارے میں سکوت کیا جائے نہ تصدیق کریں نہ تکذیب۔ ریغ

دوڑائیں گے تو اچانک ان کی نظر عیسیٰ ابن مریم پر پڑے گی۔ اس وقت نماز (فجر) کی اقامت ہو رہی ہوگی، پس مسلمانوں کے امام مہدی سچھے بٹھیں گے تو عیسیٰ (علیہ السلام) فرمائیں گے آگے بڑھو کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لئے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز سب کو امام مہدی ہی پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد (کی نمازوں میں) امام حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ہوں گے۔ (المحادی ص ۸۴ ج ۲ بحوالہ کتاب الفتن لابن نعیم)۔

۱۱۶۔ حضرت کعب اجبار ہی کا ارشاد ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اور مومنین باوجود و ماہوج (کے فتنہ) سے فارغ ہوں گے تو کئی سال کے بعد (جب کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کو بھی کئی سال گزر چکے ہوں گے) لوگوں کو غبار کی طرح ایک چیز نظر آئے گی اور اچانک معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہوا ہے جو اللہ نے مومنین کی رو میں قبض کرنے کے لئے بھیجی ہے پس یہ مومنین کی آخری جماعت ہوگی جس کی رُوح قبض کی جائے گی، اور ان کے بعد سو سال تک ایسے (کافر) لوگ (دنیا میں) رہیں گے جو نہ کسی دین کو جانتے ہوں گے، نہ سنت کو، یہ لوگ گدھوں کی طرح کھلم کھلا جماع کیا کریں گے، قیامت انہی پر آئے گی۔ (المحادی ص ۹۰ ج ۲ بحوالہ نعیم بن حماد)

اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعام و کرم سے آج ۲۴ رجب المرجب  
۱۳۹۷ھ کی شب میں یہ ترجمہ و حواشی پایہ تکمیل کو پہنچے، اللہ تعالیٰ شرف قبول  
بخشنے اور مسلمانوں کو اس سے نفع عطا فرمائے۔ آمین وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَ  
الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

کتبہ محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

خادمِ طلبیہ دارالعلوم کراچی ۱۳

۱۳/۹/۱۳

لے کیونکہ حدیث ۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان زندہ رہیں گے جو  
مفقہ کو ان کا جانشین بنائیں گے اور جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت بھی دنیا میں مسلمان موجود ہوں گے  
جیسے کہ آیت قرآنیہ یوم یاتی بعض آیات ربك لا ینفخ نفسا ایسا نہ تھک امت من قبل او کسبت فی میانہا  
چنانچہ سے ظاہر ہے ۱۲ ر

## علاماتِ قیامت

علاماتِ قیامت کا مفہوم، ان کی اہمیت، اقسام متعلقہ احادیث کی  
ایمان افروز تفصیلاً اور زمانی ترتیب کے لحاظ سے ان کی جامع فہرست  
تالیف

مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی استاذ حدیث دارالعلوم کراچی ۱۲



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلاوة على عباده الذين اصطفى

اما بعد حصّہ دوم کی احادیث کا تعلق اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہے مگر ساتھ ہی یہ احادیث علاماتِ قیامت کی اور بھی بیشتر تفصیلات پر مشتمل ہیں، بلکہ فتنہ و جہال اور نزولِ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی بڑی اور قریبی علامات میں سے ہیں ان کے دور کی جتنی تفصیلات اس میں آئی ہیں کسی اور عربی یا اردو کتاب میں ناپہنچ کی نظر سے نہیں گذریں۔

لیکن حصّہ دوم کا موضوع ”علاماتِ قیامت“ نہیں، اور نہ ترتیب کتاب میں وہ ملحوظ تھیں اس لئے یہ علامات پورے حصّہ دوم میں متفرق اور منتشر ہیں جتنی کہ ایک ہی واقعہ کا ایک جزو، ایک حدیث میں اور باقی اجزاء دوسری متفرق حدیثوں میں آئے ہیں جنہیں تلاش کرنا پورے کتاب کی ورق گردانی کے بغیر ممکن نہ تھا۔

اس لئے ضرورت تھی کہ ان علاماتِ قیامت کی ایک جامع فہرست مرتب کی جائے جس سے ہر علامت کی پوری تفصیل بھی بیک نظر معلوم ہو سکے اور یہ بھی کہ اس علامت کا ذکر حصّہ دوم کی کس کس حدیث میں ہوا ہے۔ نیز حصّہ دوم میں بعض علامات کئی کئی حدیثوں میں آئی ہیں اس لئے حصّہ دوم کے ایسے جامع خلاصہ کی بھی ضرورت تھی جو تکرار سے خالی ہو۔

لہذا بعض بزرگوں نے مشورہ دیا اور والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے بھی پسند فرمایا کہ کتاب کے آخر میں حصّہ سوم کا اضافہ کر دیا جائے جس سے یہ سب ضروریں پوری ہو سکیں، اس طرح اس کتاب کا مطالعہ ”علاماتِ قیامت“ کی کتاب کی حیثیت سے بھی کیا جاسکے گا۔

خصوصیت سے اس زمانہ میں ایسی کتاب کی ضرورت اس لئے اور زیادہ ہو گئی ہے کہ دنیا کے حالات جس تیز رفتاری سے بدل رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب قیامت کی قریبی علامات کے ظہور میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہے جتنی چھوٹی چھوٹی علاماتِ قیامت کی خبر رسول اللہ



صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تھی وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہو چکی ہیں، صرف علامات کبریٰ باقی ہیں جو نہایت اہم اور عالمگیر واقعات ہوں گے اور ان کا آغاز امام مہدی کے ظہور سے ہو گا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا ظہور ہو جائے اور دنیا بالکل نئے حالات کے سامنے آکھڑی ہو، کیونکہ انہی کے زمانہ میں خروج و تجال اور نیز عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی اہم واقعات پیش آنے والے ہیں، فتنہ و تجال و تحقیقت ایمان کی ایک نہایت کڑی آزمائش ہوگی جس کی تفصیلات کا جاننا ہر مسلمان کے لئے اور خصوصاً موجودہ نسل کے لئے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس فتنہ عظیم کے شر سے محفوظ رکھے۔

لہذا احقر نے حصہ دوم کی تمام علامات قیامت کی مفصل فہرست ایک خاص انداز پر مرتب کی ہے جو پورے حصہ دوم کا مستند اور جامع خلاصہ بھی ہے۔ اس فہرست سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں چند ابتدائی امور بدیہہ ناظرین کر دیئے جائیں۔

## قیامت اور علامات قیامت

قیامت صور اسرافیل کی اُس خوفناک سیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلہ میں آجائے گی، اس ہمہ گیر زلزلہ کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دو دھ پلانے والی مائیں اپنے دو دھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساڑھن جائیں گے، اس سیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جہاندار زندہ نہ بچے گا، زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ وحشی ہوئی روٹی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آفتاب کی روشنی فنا اور پورا عالم تیرہ دتار ہو جائے گا، آسمانوں کے پرچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔

اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر یہ بتایا کہ قیامت قریب آپہنچی اور میں

اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، قرآن حکیم نے بھی اعلان کیا کہ  
 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْأَةُ الْقَوْمِ  
 قیامت نزدیک آپہنچی اور چاند شق ہو گیا

اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکایا،  
 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ  
 تا یہم بختہ فقد جاء أشرا أطها فأنان  
 لهما إذ آجاء لهم ذكرا هم  
 سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ  
 ان پر دفعہ آپڑے؛ سو یاد رکھو کہ اس کی (متعدہ)  
 علامتیں آپہلی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے  
 اکھڑی ہوگی اس وقت ان کو بھنا کماں میسر ہوگا۔  
 (سورہ محمد)

لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی تک اللہ  
 کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں  
 بتایا، جب ربیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ  
 ما المسئول عنها با علم من السائل  
 جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ  
 نہیں جانتا

قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، چند آیات  
 یہ ہیں۔

۱- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ  
 ۲- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ  
 آيَاتٍ مُّوسَاهَا وَفِيْمَ أَنْتَ مِنْ  
 ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔  
 (سورہ النازعات)

بے شک قیامت کی خبر اللہ ہی کہے۔  
 یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں  
 کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ سو اس کے بیان کرنے  
 سے آپ کا کیا تعلق؟ اس (کے علم کی تعیین) کا مدار صرف  
 آپ کے رب کی طرف ہے۔

۳- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَاتٍ  
 مُّوسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُ عِنْدَ رَبِّي بَعْ  
 لَابِعِيَّتْهَا لَوْ كُنْتُ مُنْظَرًا لَّأَهْوَى نَقَلْتُ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَتَّبِعَنَّكُمْ إِلَّا

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ  
 اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجیے کہ اس کا راز،  
 علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اُس کے وقت پر  
 اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، وہ آسمانوں

بَغْتًا ۞ يَسْأَلُونَكَ كَاتِبًا كَذِبًا  
عَنْهَا وَقُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ

(سورة الاعراف آیت ۱۸۴)

اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض  
اپنا تک آپڑے گی، وہ آپ سے اس طرح (المرآة)  
پڑھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں  
آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے۔

علامات قیامت کی اہمیت  
العبیۃ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہم السلام نے  
بھی اپنی اپنی امتوں کو بتلائی تھیں اور رسول اکرم صلی  
اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہ تھا اس لئے آپ نے اس کی علامات سب سے  
زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمائیں، تاکہ لوگ یوم آخرت کی تیاری کریں، اعمال کی اصلاح  
کریں اور نفسانی خواہشات و لذات میں انہماک سے باز آجائیں، آپ صحابہ کرام کو  
انفراداً اور اجتماعاً کبھی اختصار اور کبھی تفصیل سے ان علامات کی تعلیم فرماتے رہے، آپ  
نے ان کی تبلیغ کا کتنا اہتمام فرمایا اس کا کچھ اندازہ صحیح مسلم کی ان روایتوں سے ہوگا۔

عن ابی زید قال صلی بنا رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر  
وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت  
الظہر فنزل فصلی ثم صعد المنبر  
فخطبنا حتی حضرت العصر ثم  
نزل فصلی ثم صعد المنبر  
فخطبنا حتی غربت الشمس  
فاخبرنا بما كان وبما هو كائن  
فأعلمنا أحفظنا۔

ابوزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ  
کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا  
وقت ہو گیا۔ پس آپ نے اتر کر نماز پڑھی، پھر منبر پر  
تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک  
کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر  
منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں  
تک کہ آفتاب غروب ہو گیا پس آپ نے ہمیں اس خطبہ  
میں، ان واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ  
ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی  
تھا وہی (ان واقعات کو) زیادہ جانتے والا ہے۔

(صحیح مسلم ص ۲۳۹۰ ج ۲)

عن حذیفۃ قال قام فی ساء  
حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 مقاما ما تدرک شیئاً یكون فی  
 مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ  
 الاحداث بہ حفظہ من حفظہ و  
 لسی من نسیہ قد علمہ اصحابی  
 هؤلاء و انه لیکون منه الشئ  
 قد نسیته فاداه فما ذکرہ کما  
 یدکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب  
 عنه ثم اذا رآه عدّ فہ (صحیح مسلم ج ۲)

علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اس قیام میں  
 آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی (اہم) واقعہ  
 نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتلایا جو جس نے یاد رکھا، یاد  
 رکھا، جو بھول گیا بھول گیا، میرے یہ ساتھی بھی یہ  
 بات جانتے ہیں، اور آپ نے ہیں جن واقعات کی  
 خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی جب دنا  
 ہرنا سے تو مجھے یاد آجاتا ہے، جیسے کوئی آدمی جب  
 غائب ہو تو آدمی اُس کا چہرہ بھول جاتا ہے پھر جب  
 وہ نظر پڑتا ہے تو یاد آجاتا ہے۔

امت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی طرح علامات قیامت کی حدیثیں  
 بھی محفوظ رکھنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا بڑا اہتمام کیا، حتیٰ کہ بچوں کو ابتدائے عمر  
 ہی سے یہ احادیث یاد کرائی جاتی تھیں، کتب حدیث میں اس باب کی احادیث کا ایک  
 عظیم ذخیرہ محفوظ ہے جو نسلاً بعد نسل حفظ و روایت کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔

یوں تو حدیث کی کوئی جامع کتاب ان احادیث سے خالی نہیں مگر اکابر محدثین نے  
 اس موضوع پر مستقل تصانیف چھوڑی ہیں، ایک ایک علامت پر بھی مستقل تصانیف  
 موجود ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک ایسی کوئی کتاب نظر سے نہیں گذری جو علامات  
 قیامت کی تمام مستند احادیث کو جامع ہو اور جس میں سب احادیث مفصل اور مستند حوالوں  
 کے ساتھ ذکر کی گئی ہوں۔

ان علامات کی کیفیت

علامات قیامت میں بعض واقعات کی تو اتنی تفصیلات ملتی  
 ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی بھی موجود ہے  
 مثلاً قندہ و جبال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی اتنی تفصیلات بیان فرمادی گئیں  
 کہ کسی دوسری علامت میں اس کی نظیر نہیں ملتی، وجہ یہ ہے کہ قندہ و جبال زمینوں کے ایمان کی  
 نہایت کڑی آزمائش ہوگا اگر اُس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے نہ ہوں تو جبال کے نام پر

میں پھنس جانے کا قوی اندیشہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور دیگر تفصیلات بھی اس لئے ضروری تھیں کہ کوئی بوالہوس اگر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے تو اس کے مزویب کا پردہ چاک کیا جاسکے۔ اور جب وہ تشریف لائیں تو ان کو باسانی پہچان کر مسلمان ان کے جھنڈے تلے دجال سے جہاد کر سکیں۔ اتنی کثیر علامات اور ان کی تفصیلات سے بعض وقتاً قاری یہ توقع بھی کرنے لگتا ہے کہ واقعات کی کڑیاں ملا کر وہ قیامت کا ٹھیک ٹھیک زمانہ متعین کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہ ایسا ہوا ہے نہ ہو سکے گا، قرآن حکیم کا واضح ارشاد ہے کہ "لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً" قیامت تم پر اچانک آپڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو بہت سی علامتوں میں ترتیب ہی کا اور اک نہیں ہوتا کہ کونسا واقعہ پہلے اور کونسا بعد میں ہوگا، اور جن واقعات کی ترتیب احادیث میں بیان کر دی گئی ہے ان میں بھی متعدد مقامات پر یہ تپہ نہیں چلتا کہ دونوں واقعوں کے درمیان کتنے زمانہ کا فاصلہ ہے، پھر بہت سی احادیث میں ایسا اجمال ہے کہ ان کی مراد یقینی طور پر متعین نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض مقامات پر پڑھنے والے کو تعارض کا شبہ ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہاں اجمال سے تعارض نہیں۔

## علاماتِ قیامت کی احادیث میں تعارض کیوں نظر آتا ہے

علاماتِ قیامت کی بعض احادیث میں سرسری نظر سے جو کہیں تعارض محسوس ہوتا ہے اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس موضوع کی بعض احادیث میں اختصار ہے اگر مفصل حدیث سامنے نہ ہو تو اختصار کے باعث دو حدیثیں باہم متعارض محسوس ہوتی ہیں مثلاً صحیح احادیث میں ہے کہ دجال بائیں آنکھ سے کاناموگا، مگر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کاناموگا۔ دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں لیکن پوری تحقیقت مسند احمد کی ایک اور روایت سامنے آتی ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی بائیں

۱۔ یہ احادیث حصہ دوم میں گذری ہیں اور آگے بھی ان کے حوالے علامتِ قیامت کی ذہرت میں آئیں گے  
 ۲۔ عن ابن عمر مرفوعاً ان السیور الدجال اعد العین الیمنی کا عینہ عینہ طائیفہ دمسلم ص

آنکھ بے نور ہوگی اور وائیں آنکھ میں موٹی پھٹی ہوگی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے لئے قرآن و سنت میں عموماً لفظ "الساعة" اور "القیامة" استعمال ہوا ہے مگر بعض احادیث میں یہ دونوں لفظ دوسرے معانی میں بھی استعمال ہوئے ہیں چنانچہ مطلق موت کو بھی قیامت کہا گیا ہے اور قیامت کی کسی بڑی اور قریبی علامت پر بھی لفظ قیامت کا اطلاق کیا گیا ہے، جس کا ذہن ان معانی کی طرف نہ جائے گا وہ کئی احادیث میں تعارض محسوس کرے گا۔

مثلاً صحیح مسلم میں روایت ہے کہ

عن انس ان رجلاً سأل رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم

الساعة وعندہ غلام لمن الانصار یقال

لہ محمد فقال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ان یغش هذا القدر فصلی

ان لا یدرکھ الہدم حتی تقوم

الساعة (صحیح مسلم ص ۴۰۶ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت

کب آئے گی اس وقت آپ کے پاس ایک انصاری

روکا موجود تھا جس کا نام محمد تھا پس رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اگر یہ زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ

اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت آجائے۔"

یہ حدیث ان تمام احادیث سے متعارض معلوم ہوتی ہے جو آگے علامات قیامت کی فہرست میں آئیں گی اور پچھلے حصہ دوم میں تفصیل سے گزری ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رسالت اور قیامت کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہوگا،

مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم ہی میں ہے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں ساعت کا لفظ قیامت کے معنی میں نہیں بلکہ کچھ خاص افراد کی موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ روایت یہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عربی سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ سے

قیامت کے متعلق پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی؟

عن عائشة قالت کان الاحراب

اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سألوه عن الساعة متی الساعة

فَنظَرَ إِلَىٰ أَحَدِ النَّاسِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّ  
يَعِشُ هَذَا الْعَرِيدُ رُكَّةَ الْعَهْرِمِ قَامَتِ عَلَيْكُمْ  
سَأْتِكُمْ (صحیح مسلم ص ۲۰۶ ج ۲)

پس آپ ان میں سب سے کم سن انسان پر نظر ڈالتے  
اور فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے  
پہلے تمہاری قیامت آجائے گی۔

ظاہر ہے کہ یہاں ”تمہاری قیامت“ سے محیٰ طہین کی موت مراد ہے، عام قیامت نہیں  
اس معنی کی تائید اُس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام غزالی نے اِحیاء العلوم میں ذکر کی ہے  
کہ، رَوَى النَّسَبِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَوْتُ الْقِيَامَةُ  
فَمَن مَاتَ فَقَدَ قَامَتِ قِيَامَتُهُ  
(الاحیاء ص ۲۲۱ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”موت قیامت ہے“  
پس جو مرے اس کی قیامت تو آ ہی گئی

اسی طرح مندرجہ ذیل احادیث میں بھی اگر تحقیق سے کام نہ لیا جائے تو تعارض نظر  
آتا ہے پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  
۱۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي  
يقا تلون على الحق ظاهرين الى يوم القيا  
مۃ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے  
سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت  
تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لئے برسر پیکار رہے گی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ  
رہے گی مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مؤمنین کو موت  
آجائے گی اور قیامت کے دن کوئی مؤمن زندہ نہ ہوگا، وہ احادیث یہ ہیں۔

۲۔ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ رِيحًا  
الين من العذير فلا تدع احدا  
في قلبه قال ابو علقمة مشقال حبة و

بے شک اللہ عزوجل ایک ہوا بھیجے گا جو لہٹم  
سے زیادہ نرم ہوگی پس جس کے دل میں ایک دانہ یا  
ایک ذرہ کی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے دھچکڑے گی

۱۔ حافظ الاسلام زین الدین عراقی نے اس حدیث کی تخریج ابن ابی الدیاس سے کی ہے اور اس کی سند کو  
ضعیف کہا ہے، مگر ہم نے یہ روایت محض تائید کے لئے ذکر کی ہے ورنہ حضرت عائشہ کی جو روایت مسلم کے  
حوالہ سے اوپر آئی ہے مدار استدلال وہی ہے جس کی صحت و قوت میں کوئی شبہ نہیں۔

قال عبد العزيز مثقال ذرة من ايمان  
الا قبضته له  
اور اس کی روح قبض کر لے گی۔

۳۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال  
في الارض الله الله (صحیح مسلم ص ۸۳ ج ۱)  
قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے  
کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔

۴۔ لا تقوم الساعة على احد يقول  
الله الله له  
قیامت ایسے کسی شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ  
اللہ کہتا ہو۔

۵۔ لا تقوم الساعة الا على شرار  
الناس له  
قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں  
پر۔

دونوں قسم کی احادیث میں بظاہر تعارض ہے پہلی حدیث باقی چاروں حدیثوں سے  
معارض نظر آتی ہے، لیکن پہلی حدیث جو یہاں مسلم سے نقل کی گئی مختلف کتب حدیث میں  
متعدد سندوں اور مختلف الفاظ سے آئی ہے مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، سنن ابی عمر والدانی،  
کنز العمال، ابن عساکر، الحادوی اور سیرت مغلطائی کی حدیثوں میں ”الی یوم القیامۃ“  
کی بجائے ”حتیٰ یبذل عیسیٰ ابن مریم“ کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمنین کی  
ایک ایسی جماعت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے تک باقی رہے گی، معلوم ہوا  
کہ اوپر مسلم کی پہلی روایت میں جو ”الی یوم القیامۃ“ ہے وہاں یوم قیامت سے قیامت  
کبریٰ مراد نہیں بلکہ قیامت کی ایک بڑی علامت یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے  
لہذا پہلی حدیث اور باقی چار حدیثوں میں جو تعارض نظر آ رہا تھا ختم ہو گیا۔

کہیں دو حدیثوں میں تعارض اس لئے ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ضعیف یا موضوع  
ہوتی ہے، اگر حدیث موضوع ہے تو اس کا قیام اعتبار ہی نہیں وہ کالعدم ہے، اور اگر ضعیف  
ہے اور وہ حدیث قوی پر منطبق نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ حدیث ضعیف کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ  
اعتماد حدیث قوی پر ہی کیا جائے گا۔

۱۔ صحیح مسلم ص ۵، ج ۱، ۲ صحیح مسلم ص ۸۳ ج ۱، ۲ صحیح مسلم ص ۲۰۶ ج ۲، ۳ یہ سب حدیثیں  
حصہ دوم میں گذری ہیں دیکھیے حدیث ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶



کبھی علاماتِ قیامت کی دو حدیثوں میں تعارض اس لئے محسوس ہوتا ہے کہ دو الگ الگ علامتوں کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے، مثلاً قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ عدن (یمن) سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ملکِ شام میں جمع کر دے گی، اور کئی دوسری حدیثوں میں ہے کہ ”آگ حجاز سے نکلے گی“ سرسری نظر سے دونوں باتیں متضاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن درحقیقت یہ دو الگ الگ علامتیں ہیں جحان کی آگ بھی علاماتِ قیامت میں سے ہے اور وہ نکل چکی ہے جس کی تفصیل اگلے صفحات میں آرہی ہے، اور عدن کی آگ بھی نہیں نکلی وہ بالکل قربِ قیامت میں نکلے گی جیسا کہ علاماتِ قیامت کی فہرست کے آخر میں بیان ہوگا۔

یہ تعارض کے وہ موٹے موٹے اسباب ہیں جو علاماتِ قیامت کی احادیث میں زیادہ پیش آتے ہیں، دیگر اسباب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس مضمون کے ساتھ خاص نہیں دوڑتی احادیث میں بھی بکثرت پیش آتے ہیں، یہاں صرف نمونہ کے طور پر چند اسباب پیش کئے گئے ہیں تاکہ ناظرین کو جہاں احادیث کے درمیان تضاد اور تعارض نظر آئے وہاں تضاد کا فیصلہ کرنے کی بجائے حدیث کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

ناچیز راقم الحروف نے حصہ دوم کے ترجمہ میں تفسیر اور حواشی میں ایسے مقامات پر جہاں احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے اُسے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اگلے علاماتِ قیامت کی فہرست میں ناظرین دکھیں گے کہ انہیں مرتب ہی اس طرح کیا ہے کہ تعارض اکثر مقامات پر تو محسوس ہی نہیں ہوتا خود ترتیب بیان ہی سے تعارض کا حل ہو گیا ہے، اور کہیں بعد ضرورت حواشی میں اس کا بیان کر دیا گیا ہے۔

## علاماتِ قیامت کی تین قسمیں

قرآن حکیم میں جو علاماتِ قیامت ارشاد فرمائی گئیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قُربِ قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قریب اور دُور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی

(متوفی ۱۰۴۷ھ) نے اپنی کتاب ”الاشاعة لاشروط الساعة“ میں علاماتِ قیامت کی تین قسمیں کی ہیں (۱) علاماتِ بعیدہ (۲) علاماتِ متوسطہ جن کو علاماتِ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے (۳) علاماتِ قریبہ جن کو علاماتِ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔

## قسم اول (علاماتِ بعیدہ)

علاماتِ بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، ان کو ”بعیدہ“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگِ صفین، یہ سب واقعات از روئے قرآن و حدیث علاماتِ قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔

## فتنہ تاتار

انہی علامات سے فتنہ تاتار ہے جس کی پیشگی خبر احادیث صحیحہ میں دی گئی تھی، بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ روایات ذکر کی ہیں، بخاری میں حدیث کے الفاظ

لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَمَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا وَأَمَّا كَيْ سَبَّ عَلَمَاتُ كَوَالِمِ بَرْزَخِي فِي ”الاشاعة“ میں تفصیل سے احادیث کے ساتھ بیان کیا ہے ص ۴، ۵، ۱۰، ۲۵، ۳۰ اور اجمالاً یہ سب علامتاً از اب صدیق حسن صاحب نے بھی ”الاذاعة لما يكون بين يدي الساعة“ میں ذکر کی ہیں ص ۱۳، ۱۵، ۱۸، طبع ثابت مدینہ منورہ لہ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِتْنَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَوْتُهُمَا وَاحِدٌ۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۹، شرح حدیث حانظ ابن حجر علامہ قسطلانی وغیرہ نے اس کا مصدق جنگ صفین ہی کو قرار دیا ہے مثلاً دیکھئے فتح الباری ص ۷۲ ج ۱۳

یہ ہیں۔

قال ابوہریرۃ قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی  
تقاتلوا الترك صفار الاعین حنتر الوجہ  
ذلت الا توف کان وجوہہم المجات المطر  
ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قومنا خالم  
الشعر۔  
وفی حدیث عمرو بن تغلب مرفوعاً  
وان من اشراط الساعة ان تقاتلوا قوما  
عراض الوجوہ۔

(صحیح بخاری)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی یہاں  
تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی،  
چہرے سُرخ اور ناکیں چھوٹی اور چوٹی ہموں گی، ان کے  
چہرے رگلائی اور موٹائی میں، ایسی ڈھال کی مانند ہوں  
گئے جس پر تیر تیر چھوڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت  
نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ  
کرو جن کے جہتے بالوں کے ہوں گے۔

اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا "علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے

کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے عریض (چوڑے) ہوں گے۔

اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ان کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ "یَلْبَسُونَ الشَّعْرَ"

یعنی وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی  
خبر دی گئی ہے یہ تاتاری ہیں جو ترکستان سے قبرانی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے

تھے، اس قوم کی جو جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھیں وہ سب

کی سب فتنہ تاتاریں رونما ہو کر رہیں، یہ فتنہ ۱۵۶ھ میں اپنے عروج پر پہنچی جب تاتاریوں

کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک حادثہ پیش آیا، انھوں نے نبو عباس کے آخری خلیفہ

مستعصم کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زوئیں آکر زیر و زبر ہو گئے۔

۱۔ صحیح بخاری ص ۲۱۰ ج اول، کتاب الجہاد باب قتال الترك و ص ۵۰ ج اول باب علامات

النبیة کتاب المناقب ۲۔ صحیح مسلم ص ۳۹۵ ج ۲ ۳۔ فتح الباری ص ۴۴ ج ۱۔ عمدۃ القاری

ص ۲۰۱ ج ۱۰ الاثنا عشر ص ۳۵۔ والا ذخیرہ ص ۸۲

شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان کی ولادت ۶۳۱ء میں اور وفات ۶۴۶ء میں ہوئی، وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ،  
 یہ سب پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہیں، کیونکہ ان  
 ترکوں سے جنگ ہو کر رہی، وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، آنکھیں پھوٹی، چہرے سُرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی پتھر  
 عریض، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بڑے چھڑا چھڑا ہوا گیا ہو،  
 بالوں کے جوتے پینتے ہیں، غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانہ میں مہجور  
 ہیں، مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے،  
 ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہ حال انجام بہتر کرے اے اے  
 معاملہ میں بھی اور دوسروں کے معاملہ میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و حمایت ہمیشہ برقرار  
 رکھے، اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول پر جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بڑھتا بلکہ جو  
 پکڑ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

## نار الحجاز

قیامت کی انہی علامات میں سے ایک حجاز کی دروغیہ عظیم آگ ہے جس کی پیشین گوئی نبی رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بخاری اور مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ  
 میں نقل کی ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزح  
 نار من ارض الحجاز تضيئ اعناق  
 كرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت  
 نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے  
 گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گریزیں روشن کر دے گی۔  
 الاہل بیہمی۔

لے شرح مسلم ص ۲۳۹۵ ج ۲ صح المطابع کراچی نے صحیح بخاری ص ۱۰۵ ج ۲ باب خروج  
 اتار، کتاب الفتن، صحیح مسلم ص ۲۳۹۳ ج ۲ کتاب الفتن۔

اور فتح الباری میں یہ روایت بھی ہے جس میں مزید تفصیل ہے۔

عن عبدین الخطاب یرفعہ لا تقوم الساعة حتی یسئل وادمن اودیة علیہ ولم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ "قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ جہاز کی واہریں میں سے ایک واہری بیصویٰ دفع الباری ص ۶۸ ج ۱۳ بحوالہ ایسی آگ سے بڑھنے جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی :-

بصری مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان شام کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے تین میل (تقریباً ۸۴ میل) پر واقع ہے۔

یہ عظیم آگ بھی فتنہ تاتار سے تقریباً ایک سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں اُنہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ ۶ جمادی الثانیہ ۶۵۲ھ کو نکلی اور بحر زخار کی طرح میلوں میں پھیل گئی جو پہاڑ اس کی زد میں آگئے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا اتوار ۲۴ رجب (۵۲ دن) تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً تین ماہ لگے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، یسویٰ، تیماء حتیٰ کہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق بصری جیسے دُور دراز مقام پر بھی دکھی گئی، اس کی خبر تو اتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی چنانچہ اُس زمانہ کے محدثین مورخین نے اپنی تصانیف میں اور شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، صحیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نووی اُسی زمانہ کے بزرگ ہیں وہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :-

حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت

ہے اور ہمارے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ ۳۵۰ھ میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی،

۱۔ فتح الباری ص ۶۷ ج ۱۳ و ارشاد الساری ص ۲۰۲ ج ۲ ص ۲۵ فتح الباری ص ۶۷ ج ۱۳

عمدة القاری للعینی ص ۲۱۲ تا ۲۱۳ ج ۲ ص ۲۲۳ ارشاد الساری للقسطلانی ص ۲۰۳ تا ۲۰۴ ج ۲

الاشاعة ص ۲۰ تا ۲۱ ص ۸۴ - وقام لوفاء لسمروی ص ۱۳۹ تا ۱۴۱ ج اول -

مدینہ طیبہ سے مشرق سمت میں سورہ کے چھپے نکل ہے، تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کا علم بدرجہ اولیٰ پہنچ چکا ہے اور محمد مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔

مشہور مفسر علامہ محمد بن احمد قرطبیؒ بھی اسی زمانہ کے بلند پایہ عالم ہیں انھوں نے اپنی کتاب "التذکرۃ ہامورالآخرة" میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں بخاری و مسلم کی اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

"عجائز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکل ہے، اس کی ابتداء زبردست درد سے ہوئی جو بدھ ۳، جمادی الثانیہ ۱۵۵ھ کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور مہجر کے دن پاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قرنیہ کے مقام پر خزہ کے پاس نمودار ہوئی جو ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آرہی تھی جس کے گرد فیصل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، بروج اور مینارے بنے ہوئے ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو اسے ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر گذرتی تھی اسے ڈھا دیتی اور پھلا دیتی تھی، اس مجموعہ میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی سی شکل میں نکلتا تھا جس میں بادل کی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور عراقی مسافروں کے اڈہ تک پہنچ جاتا تھا، اس کی دھیر سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی، پھر آگ مدینہ کے قریب تک پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینہ میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی اس آگ میں سمندر کے سے جوش و خروش کا مشاہدہ کیا گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو پانچ یوم کی مسافت سے فضاء میں بلند ہوتا ہوا دیکھا، ادیسی نے سنا ہے کہ وہ مکہ اور بصری کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ علامہ قرطبیؒ آگے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔"

۱۔ شرح صحیح مسلم ص ۳۹۳ ج ۲ ۲۔ دفات ۱۱۵

۳۔ فتح الباری ص ۶۷ ج ۱۳ نقلاً عن التذکرۃ

۴۔ مختصر تذکرۃ القرطبی للشیخ عبدالوہاب الشعرانی ص ۱۲

اسی زمانہ کے ایک اور جلیل القدر محدث ابو شامہ المقدسی دمشقی میں انھوں نے اپنی کتاب "ذیل الروضتین" میں وہ خطوط نقل کئے ہیں جو اس واقعہ کے فوراً بعد ان کو مدینہ طیبہ کے قاضی اور دیگر حضرات کی طرف سے ملے، یہ خود اس وقت دمشق میں تھے۔ فرماتے ہیں:-

وہ اوائل شعبان ۵۵۳ھ میں کئی خطوط مدینہ شریف سے آئے ان میں ایک عظیم واقعہ کی تفصیلات ہیں جو وہاں رونما ہوا ہے، اس واقعہ سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جو بخاری و مسلم میں ہے۔ آگے وہی حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں، اس آگ کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے جن لوگوں پر مجھے اہتمام ہے ان میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ آگ سے یہ اطلاع پہلی ہے کہ اس آگ کی روشنی سے تیمار کے مقام پر خطوط لکھے گئے ہیں (بعض خطوط نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اور بعض خطوط میں ہے کہ جمادی الثانیہ کے پہلے جمعہ کو مدینہ کی مشرقی سمت میں ایک عظیم آگ رونما ہوئی اس کے اور مدینہ کے درمیان نصف یوم کی مسافت تھی، یہ آگ زمین سے نکلی اور اس میں سے آگ کی ایک لوی دہری سی بہ پڑی، یہاں تک کہ وہ جبل احد کی محاذات میں آگئی۔ ایک اور خط میں ہے کہ ایک عظیم آگ کے باعث حرہ کے مقام پر سے زمین پھٹ پڑی آگ کی مقدار (طول و عرض میں) مسجد نبوی کے برابر ہوگی اور دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مدینہ ہی میں ہے، اس میں سے ایک وادی سی بہ پڑی جس کی مقدار پانچ فرسخ اور عرض چار میل تھا وہ سطح زمین پر بہتی تھی اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ سے نمودار ہوتے تھے۔ ایک اور خط میں ہے کہ اس کی روشنی اتنی جھیلی کہ لوگوں نے اس کا

۱۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا اور نقل میں قابل اعمادہ "ثقة تامة" التعلیل "قراردیا ہے، ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۳۵۹ھ میں اور وفات ۴۶۵ھ میں ہوئی تذکرۃ الحفاظ للذہبی ص ۴۳۲ ج ۴

۲۔ البدایہ و النہایہ ص ۱۸۸ ج ۱۳ و الفوائد السعدیہ ص ۴۲ ج ۱ اول

۳۔ تیمار مدینہ طیبہ سے اتنی ہی دور ہے جتنی وعد لیکرنی ہے ارشاد الساری للقبطلانی ص ۲۳ ج ۱

مشاہدہ کر سے کیا (آگے فرماتے ہیں) یہ آگ مبینوں باقی رہی پھر ٹھنڈی ہو گئی، جو بات  
بھی پر واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر ہے یہ وہی ہے جو مدینہ کے  
نواح میں ظاہر ہوئی ہے۔

علامہ سمودی نے وفاء الوفا میں اس زمانہ کے لوگوں کے بیانات نقل کئے ہیں کہ  
اس زمانہ میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھویں کی کثرت کے باعث  
آتی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگا ہوا ہے اور  
ابو شامہ کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ۔

”اور ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھند  
ہو گئی تھی اور ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک کہ میں اس آگ کی  
خبر پہنچ گئی۔“

اسی زمانہ کے ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانی ہیں جو عین اس  
وقت جب کہ آگ لگی ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں  
بڑی کاوش سے کام لیا حتیٰ کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا جس میں  
عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کئے ہیں۔ انہوں نے یہ عجیب واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ

”مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ اُس نے خزو کے  
پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کا بعض حصہ  
حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا آگ اس کے صرن اس حصہ میں لگی جو حد حرم سے خارج  
تھا اور جب پتھر کے اس حصہ پر پہنچی جو حد حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی“

۱۔ فتح الباری ص ۶۶، ۱۲ بحوالہ ذیل الروضین

۲۔ وفاء الوفا ص ۱۳۵ ج ۱۔ اس رسالہ کا نام ”جعل الایجاز فی الایجاز بہاد  
الایجاز“ ہے۔ ارشاد الساری للقسطلانی ص ۲۰۳ ج ۱۔ یاد رہے کہ یہ قطب الدین القسطلانی  
شارح بخاری نہیں۔ بلکہ شارح بخاری سے مقدم ہیں اور شارح بخاری علامہ شہاب الدین القسطلانی  
نے ان کے حوالے اپنی کتاب ارشاد الساری میں دیئے ہیں۔



یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرمِ مدینہ میں داخل نہ ہو سکی حتیٰ کہ ایک ہی پتھر کا جو حصّہ حرم سے باہر تھا اُسے آگ نے جلا دیا اور جو حصّہ اندر تھا وہاں پہنچ کر آگ خود ٹھنڈی ہو گئی۔

علامہ سمورہی جو مدینہ طیبہ کے مشہور مؤرخ ہیں انھوں نے مدینہ طیبہ کے مقاماتِ مقدسہ اور چیمپینہ کی تاریخ اور تفصیلات جس کاوش سے اپنی کتاب ”وفاء الوفا“ میں بیان کی ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی انھوں نے آگ کی تفصیلات تقریباً ۱۳ صفحات میں قلم بند کی ہیں، اور جن حضرات کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا ان کے بیانات تفصیل سے نقل کئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ تیار، مدینہ، یمن، یثرب، جبالِ سائبہ اور بصری جیسے دور دراز مقامات میں دکھی گئی۔

اسی زمانہ کے ایک بزرگ قاضی القضاۃ صدر الدین حنفی ہیں جو دمشق میں حاکم رہے ہیں ان کی ولادت ۶۴۲ھ میں ہوئی قاضی القضاۃ ہونے سے پہلے یہ بصری میں ایک مدرسہ کے مدرس تھے اور آگ کے واقعہ کے وقت بھی بصری میں تھے انھوں نے مشہور مفسر و مؤرخ حافظ ابن کثیر کو خود بتایا کہ

”جب دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے بصری میں ایک دیہاتی کو خود دُعا جو کہ والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دکھی ہیں“

یہ یعنی وہ بات ہے جس کی تمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں دی تھی کہ اُس آگ سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھیں، ایک یہ کہ وہ آگ جازمیں نکلے گی، دوسری یہ کہ اُس سے ایک وادی بہ پڑے گی، آد تیسری یہ کہ اُس سے بصری کے مقام

لے اور اس آگ کے بارے میں احادیثِ نبویہ بھی کئی ذکر کی ہیں جن میں مزید تفصیل ہے اور آگ اُنھیں انھیں کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ لے ان کے والد شیخ صفی الدین میں یہ بھی بصری کے اسی مدرس میں مدرس تھے۔ البتہ

والہذا یہ ص ۱۳ وفاء الوفا ص ۱۳۴ ج ۱ لے دیکھئے البتہ والہذا یہ ص ۱۳۱ تا ۱۳۲ ج ۱ نیز یہ واقعہ

والہذا یہ ص ۱۳۴ ج ۱ لے دیکھئے البتہ والہذا یہ ص ۱۳۱ تا ۱۳۲ ج ۱

پراؤنٹوں کی گرز میں روشن ہو جائیں گی، یہ سب باتیں من و عن کھل کر ظاہر ہوئیں۔

عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلاشبہ وہ بھی ایک ایک کے سامنے آتے جائیں گے اور آئندہ نسلوں کے لئے آپ کی صداقت و حقانیت کی تازہ ترین دلیل بنیں گے۔

یوں تو علاماتِ بعیدہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ قیامت سے پہلے رُو نما ہوں گے اور وہ رونما ہو کر رہے، علامہ برزنجی نے اپنی مشہور کتاب ”الاشاہدہ“ میں اور بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں، ہم نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں مگر کلام پھر بھی طویل ہو گیا، تاہم یہ تطویل بھی انشاء اللہ نفع سے خالی نہ ہو گی۔

## قسم دوم (علاماتِ متوسطہ)

قیامت کی علاماتِ متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچیں ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ تیسری قسم کی علاماتِ ظاہر ہونے لگیں گی، علاماتِ متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔

مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب و روزہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا پانچھی کمینہ ہو، لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، ذلیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس ناجر ہوں گے پولیس کی کثرت ہوگی

۱۔ یہ حدیث علامہ برنجی نے الاشاہد میں طبرانی سے نقل کی ہے، پوری عبارت یہ ہے: ان من اعلام الساعة وقتها ان تکثر الشوط (ذی قولہ) الطبرانی من ایام مسعود (الشرط بضم المعجزة) وقلم الہیة ہم، اعولنا سلطان تعال الخاضی وہم الان امون الظلمة ویطلق غالباً علی اقلہ جماعۃ ابوالی ذنوبہ ورجا توسع فی الامم علی ظلمة ظلم الناس

جنظالموں کی پشت پناہی کسے گی ابرطے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، اڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائیگی مگر کسا دبا زاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، بکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لئے حاصل کی جائے گی، قرآن کو گانے باجے کا آئینہ لیا جائے گا۔ ریا و شہرت اور مالی منفعت کے لئے گا گا کہ قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہاء کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا، اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سُرُخ سولے بسے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے، اس اُمت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔

امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو بُرا اور بُرائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائیگا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کئے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں میں شور و غیب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان چھان کے لوگوں کو کیا جائے گا حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہئے، خواہ اُس سے جان چھان ہو یا نہ ہو، مطلقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ پھپھتے پھریں گے اور کیسے لوگوں کا اور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔

شراب کا نام بنید، سود کا نام بیح اور رشوت کا نام بیدہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائیگا سود، جو گانے باجے کے آلات، شراب، خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اور ادا کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث، وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر سختی اونٹ کے کون کی طرح ہوں گے پلک پلک کر ملیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ اُس کی خوشبو پائیں گے، مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا، مگر

انہیں روک نہ سکے گا جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا۔  
 علامات متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے ایسے دو دریں دی تھی جب کہ ان کا قصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے  
 ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی علامت اپنی انتہا کی پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مرحلہ  
 سے گذر رہی ہے، جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی،  
 اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اللہ عزوجل ہمیں ہر فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے  
 اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔

## قسم سوم (علاماتِ قریبہ)

یہ علامات بالکل قریب قیامت میں کیے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، یہ بڑے بڑے  
 عالمگیر واقعات ہوں گے لہذا ان کو "علاماتِ گہری" بھی کہا جاتا ہے، مثلاً ظہور مہدیؑ، خروج  
 دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یا جوج ماجوج، آفتاب کا مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض  
 ادریس سے نکلنے والی آگ وغیرہ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اپنا  
 قیامت آجائے گی۔

جو کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کے حصہ دوم کی تقریباً تمام حدیثیں علاماتِ  
 قیامت کی اسی قسم سے متعلق ہیں، مگر وہاں یہ علامات منتشر اور متفرق طور پر آئی ہیں، اگلے  
 اوراق میں ہم وہی سب علامات ایک فہرست کی شکل میں منصل اور ترتیب وار بیان کریں  
 گے۔

## اس فہرست کی خصوصیات

۱۔ قیامت کی جو علامات اور ان کی جو تفصیلات حصہ دوم کی احادیث میں آئی ہیں وہ سب

یہ علامات "الاشیاء" اور "الاشیاء" سے متعلق ہیں اور بہت سی علامات بخبر طوات صنف کردی  
 ہیں تفصیل اور متعلقہ احادیث وہیں دیکھی جاسکتی ہیں، لازم۔ ۲۰۲ تا ۲۰۷۔

کی سب اس فہرست میں لے لی گئی ہیں خواہ احادیث میں ان کا ذکر ضمناً ہی ہوا ہو۔ اس طرح یہ فہرست پورے حصہ دوم کا خلاصہ ہے، البتہ چار موضوع اور زمین ضعیف حدیثیں جو حصہ دوم میں آگئی ہیں ان سے کوئی علامت اس فہرست میں یا فہرست کے حاشیہ میں نہیں لی گئی۔

۲۔ حصہ دوم میں موقوف حدیثیں یعنی صحابہ و تابعین کے اقوال بھی کثرت سے آئے ہیں ان کی ایسی علامات جو احادیث مرفوعہ میں نہیں، اصل فہرست کی بجائے فہرست کے حاشیہ میں حسب موقع درج کی گئی ہیں، نیز حصہ دوم میں حدیث مرفوعہ و اہل کی سند نہیں معلوم ہو سکی لہذا اس سے لی ہوئی علامت بھی اصل فہرست کی بجائے حاشیہ میں لکھی ہے لہذا اصل فہرست صرف ان علامات قیامت پر مشتمل ہے جو حصہ دوم کی مستند احادیث مرفوعہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں قوی سند کے ساتھ آئی ہیں۔

۳۔ فہرست کو اتنی تفصیل ادا کیے تسلسل سے مرتب کیا گیا ہے کہ اگر حوالوں کے کالم سے قطع نظر کے محض علامات ہی کا کالم مسلسل پڑھتے جائیں تو یہ ایک مربوط اور مستقل مضمون کا کالم دے گی۔

۴۔ جو علامات قیامت حصہ دوم کی احادیث میں نہیں اگرچہ دوسری مستند احادیث میں موجود ہیں انہیں فہرست میں نہیں لیا گیا تاہم بیشتر علامات قیامت کا بیان اس فہرست میں آگیا ہے خصوصاً فقہ رجال اور نزول عیسیٰ کی جتنی تفصیلات اس میں ہیں کسی اہل عربی یا اردو کتاب میں مستند حوالوں کے ساتھ احقر کی نظروں سے نہیں گزریں۔

۵۔ علامات کے بیان میں واقعاتی اور زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن جن علامتوں کی ترتیب زمانی احادیث سے معلوم نہیں ہو سکی ان میں ترتیب پر ولات کرنے والے الفاظ سے احتراز کیا ہے۔

۶۔ علامات پر سلسلہ وار نمبر ڈال دیئے گئے ہیں نیز ہر علامت کے سامنے حصہ دوم کی ان تمام احادیث کے نمبر درج ہیں جن میں وہ علامت مذکور ہے، ہر حدیث کے نمبر کے

ساتھ اُس کتاب کا نام بھی درج ہے جس سے وہ حدیث حصہ دوم میں لی گئی ہے۔ اگر وہ حدیث متعدد کتب حدیث میں ہے تو صرف اُس کتاب کا نام درج کیا ہے جس کے الفاظ میں وہ حدیث نقل کی گئی ہے اور جہاں صاحب اللفظ کی تیسین نہ ہو سکی وہاں ایک سے زیادہ کتابوں کے نام درج کر دیئے ہیں

۴۔ کسی کسی علامت کے بیان میں کچھ عبارات تو سین میں ملے گی وہ عبارت طبع زاہد نہیں بلکہ وہ بھی حصہ دوم ہی کی حدیثوں میں ہے اور تو سین میں اُس کو اس لئے لکھا ہے کہ اس علامت کے لئے سامنے کے کالم میں جن حدیثوں کا حوالہ دیا گیا ہے تو سین کا مضمون ان میں سے بعض میں ہے بعض میں نہیں، حواشی میں کہیں کہیں اس کی صراحت بھی کر دی ہے۔ واللہ الموفق والمعین علیہ توکلنا وبہ نستعین۔

## فہرست علامات قیامت

حوالہ احادیث	علامات قیامت برتیب زمانی
۱۷ احاکم وغیرہ۔	۱- قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے؟
۱۷ احاکم وغیرہ۔	۲- تیس بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے۔ سب سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا۔
۲۱ مسلم و ۳۲ احمد و ۴۴ کنز العمال ابن عساکر و ۲۱ احمد، سیرت مخلطائی و ۱۰۵ الحدادی للسیوطی سنن ابی عمرو الدانی، و ۱۱۱ ابویعلیٰ۔	۳- لیکن زبور علیٰ تک، اس امت میں ایک جماعت حق کے لئے برسر پیکار رہے گی۔
۴۴ کنز العمال، ابن عساکر۔	۴- جو اپنے مخالفین کی پروا نہ کریں گی۔
	امام مہدی
۲۱ مسلم وغیرہ و ۵۱ ابی عمرو الدانی و ۱۱۱ ابویعلیٰ و ۱۱۱ الحدادی، ابونعیم۔	۵- اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔

لے اس علامت کے لئے سامنے کے کالم میں جن حدیثوں کا حوالہ دیا گیا ہے تو سین کا مضمون ان میں سے حدیث ۲۱ میں نہیں۔ باقی سب حدیثوں میں ہے اور تو سین کے علاوہ باقی مضمون حدیث ۲۱ سمیت سب حدیثوں میں ہے آگے بھی جو عبارت تو سین میں ذکر کی جائے گی۔ وہ اس بات کی نظر اشارہ ہوگا کہ اس علامت کے لئے جن حدیثوں کا حوالہ دیا گیا ہے تو سین کا مضمون ان سب حدیثوں میں نہیں بلکہ بعض میں ہے۔ کہیں کہیں حواشی میں اس کی مراحت بھی کر دی گئی ہے۔

## حوالہ احادیث

## علاماتِ قیامت تتریبِ زمانی

۱۳ ابن ماجہ و طبرانی، و ۱۴ الحدادی، ابو نعیم۔  
 ۱۵ ابو نعیم، کنز العمال، و ۱۶ الحدادی، ابو نعیم و ۱۷  
 الحدادی، ابو نعیم۔

۱۸ بخاری و مسلم صحیحہ و ۱۹ مسلم و غیرہ و ۲۰  
 ابن ماجہ و ۲۱ احمد، و ۲۲ احمد حاکم و ۲۳  
 کنز العمال، ابو نعیم و ۲۴ الحدادی للسیوطی، بخاری  
 المہدی للابی نعیم و ۲۵ الحدادی بن عمر والدائی و ۲۶  
 الحدادی بن نعیم بن حماد و ۲۷ الحدادی ابن ابی شیبہ و ۲۸  
 الحدادی، ابو نعیم و ۲۹ الحدادی، ابو نعیم۔

۳۰ الدر المنثور، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی  
 و غیر ہم و ۳۱ و ۳۲ ابن حبان

۳۳ نسائی، احمد و غیر ہما و ۳۴ کنز العمال، ابو نعیم

۳۵ کنز العمال، ابو نعیم

۶۔ جو نیک سیرت ہوں گے  
 ۷۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بل بیت  
 (اور اولاد) میں سے ہوں گے  
 ۸۔ اور انہی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 کا نزول ہوگا۔

۹۔ جو آیت قرآنیہ ”وَإِنَّمَا لَعَلَّمُوا لِسَانَهُ“  
 کی رو سے قربِ قیامت کی ایک علامت  
 ہے۔

۱۰۔ مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسند  
 جماعت پر مشتمل ہوگا، ہندوستان پہنچا  
 کر مے گا اور فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں  
 کو طوق و ساسل میں جکڑے گا۔

۱۱۔ جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں عیسیٰ ابن مریم  
 کو پائے گا۔

۱۲۔ تو میں کا مضمون صرف وہ حدیث میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے فرزند  
 یونس علیہ السلام کا حدیث میں ہے کہ ہندوستان پر اب تک متعدد جماد ہو چکے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ  
 یہاں کونسا جماد مراد ہے، اگر آئندہ کا کوئی جماد ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور پچھلا کوئی جماد مراد ہے  
 تو طاعت میں جو آ رہا ہے کہ جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام سے مراد اس لشکر کی نسلیں ہوں گی۔ ۱۲۔ ارفیح



خروج و مجال سے پہلے کے واقعات

۱۲۔ رومی اہمات یا اہل حق کے مقام تک پہنچنے سے پہلے صحیح مسلم  
جائیں گے۔ ان سے جہاد کے لئے مدینہ  
سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا  
جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے  
ہوگا۔

جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے  
تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور  
مسلمان انکار کریں گے، اس پر جنگ ہوگی  
جنگ میں ایک تہائی مسلمان فرادہ رہ جائیں  
گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا  
ایک تہائی شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہداء  
ہوں گے اور باقی ایک تہائی مسلمان  
فتح یاب ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنہ  
سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے

۱۳۔ پھر یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ صحیح مسلم

۱۴۔ جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول صحیح مسلم

ہوں گے تو خروج و مجال کی جھوٹی خبر مشہور  
ہو جائے گی جسے سنتے ہی یہ لشکرواں  
سے روانہ ہو جائیں گے۔

۱۵۔ حدیث ۱۵۷۰ حضرت ارطاة پر موقوف ہے اس میں ہے کہ امام مہدی قسطنطنیہ پر جہاد کریں گے  
مسلم ہوں گے، ان کی قیادت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔

## علاماتِ قیامت بترتیبِ زمانی

حوالہ اسنادیث

### ”خروجِ دجال“

۱۵- اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔

۵ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد،  
حاکم وغیرہم و ۶ مسلم، احمد، حاکم، ابن عساکر  
و ۷ مسلم و ۸ مسلم، ابو داؤد، ترمذی،  
ابن ماجہ، ۹ احمد، ابن ابی شیبہ، حاکم، طبرانی  
و ۱۰ حاکم، طبرانی، ابن مرویہ و ۱۱ درمنثور  
ابن جریر و ۱۲ ابن ابی شیبہ، ابن عساکر و ۱۳ کنز العمال  
نیسیم بن حماد۔

۱۶- اس سے پہلے تین بار ایسا واقعہ پیش آ  
چکا ہوگا کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے۔

۱۷- خروجِ دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں  
گے، باہمی عداوتیں پھیلی ہوتی ہوں گی۔

۱۸- دین میں کمزوری آپکی ہوگی۔

۱۹- اور علم رخصت ہو رہا ہوگا۔

۲۰- عرب اس زمانہ میں کم ہوں گے۔

۲۱- دجال کے اکثر پیرو عورتیں اور یہودی  
ہوں گے۔

۲۲- یہودیوں کی تعداد ستر ہزار ہوگی جو مرتع

تلواروں سے مسلح ہوں گے اور ان پر

لے قرین کا مضمون صرف حدیث میں اور باقی مضمون حوالہ کی سب حدیثوں میں ہے۔ حضرت عبد اللہ  
بن عمرو بن العاص کی حدیث موقت میں ہے کہ خروجِ دجال کسی صدی کے آغاز پر ہوگا۔ الاموال للسیوطی  
کے تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے یا قوت کے اعتبار سے۔

## حوالہ احادیث

## علامات قیامت بترتیب زمانی

بیش قیمت دبیز کپڑے "ساج" کا  
لیاس ہوگا۔

۲۳۔ وجمال شام و عراق کے درمیان نکلے گا۔ ۵ مسلم وغیرہ و ۳ ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہما

۲۴۔ اور اصفہان کے ایک مقام "یودیہ" ۲۲ احمد، الدر المنثور،  
میں نمودار ہوگا۔

## "وجمال کا حلیہ"

۲۵۔ وجمال جوان ہوگا (اور عبد العزیٰ بن قطن  
کے مشابہ ہوگا)

۲۶۔ (رنگ گندمی اور) بال پھیلا رہوں گے۔ ۵ مسلم وغیرہ و ۲۵ طبرانی وغیرہ

۲۷۔ دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ ۲۵ احمد وغیرہ۔

۲۸۔ ایک (بائیں) آنکھ سے کان ہوگا۔ ۵ مسلم وغیرہ و ۱۲ ابن ماجہ، احکام و ۳

احمد و حاکم و ۲۵ احمد و ۳۶ حاکم کنز العیال

و ۳۵ طبرانی، کنز العمال وغیرہما و ۶۵

درمنثور، ابن جریر۔

۲۹۔ دو سر (دائیں) آنکھ میں موٹی پھٹی ہوگی۔ ۳۵ احمد وغیرہ و ۳۶ حاکم وغیرہ و ۳۵

طبرانی وغیرہ۔

۱۵ حدیث ۵ و ۱۳ میں گزرا ہے کہ وجمال شام و عراق کے درمیان نکلے گا جس سے تعارض کا شبہ ہوتا ہے لیکن

درحقیقت کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے شام و عراق کے درمیان نکلے مگر اس وقت اس کا خردچ نمایاں نہ

ہو پھر اصفہان کی بستی یہودیہ میں نمودار ہو اور وہاں پہنچ کر اس کی شہرت و جہیت میں اضافہ ہو جائے پس حدیث ۵ و

۱۳ میں اس کا ابتدائی خردچ ملو ہوا و حدیث ۳۲ میں خروج کی شہرت، رفیع ۱۲ جس کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک

حدیث مرفوعہ میں ہے کہ "اعود العین الیمنی کا لہا عینکۃ لہافیتۃ" یعنی وجمال دائیں آنکھ سے

(یہی) کان ہوگا جو انگوڑی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوگی (ص ۹۵ ج ۱)

## حوالہ احادیث

## علاماتِ قیامت بترتیب زمانی

- ۳۰۔ پیشانی پر کافراں طرح لکھا ہوگا  
(ک ف ر)  
۳۱۔ جسے ہر مومن پر پھسکے کا خواہ لکھنا  
جاننا ہو یا نہ جاننا ہو۔  
۳۲۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس  
کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس  
ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔  
۳۳۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح  
تیز ہوگی۔  
۳۴۔ تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا،  
جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی  
گئی ہو۔  
۳۵۔ اور ہر طرف فساد پھیلانے کا  
۳۶۔ مگر مکہ معظمہ (مدینہ طیبہ) اور بیت  
المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔  
۳۷۔ اس زمانہ میں مدینہ طیبہ کے سات دروازے  
ہوں گے۔  
۳۸۔ اور (مکہ معظمہ) مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر  
فرشتوں کا پہرہ ہوگا جو اسے اندر گھسنے
- ۱۲۔ ابی ماجہ و ۲۱۔ احمد، حاکم و ۲۵۔ احمد،  
و ۲۶۔ حاکم وغیرہ۔  
۱۳۔ ابی ماجہ وغیرہ و ۱۴۔ احمد، حاکم و ۲۶۔ حاکم  
وغیرہ  
۲۱۔ احمد، حاکم و ۱۰۔ حاکم، سیوطی  
۵۔ مسلم وغیرہ  
۱۲۔ ابی ماجہ وغیرہ و ۱۵۔ حاکم وغیرہ و ۲۰۔ حاکم  
و ۲۱۔ احمد، حاکم  
۵۔ مسلم وغیرہ و ۱۳۔ ابی ماجہ وغیرہ  
۱۳۔ ابی ماجہ و ۱۴۔ حاکم و ۲۰۔ حاکم و ۲۱۔  
احمد، حاکم و ۲۵۔ احمد و ۶۸۔ معمر و ۱۰۔ منشور،  
و ۱۲۔ مجمع الزوائد، اوسط طبرانی  
۲۳۔ احمد، الدر المنثور۔  
۱۲۔ ابی ماجہ وغیرہ، و ۲۱۔ احمد، حاکم و ۲۳۔  
احمد وغیرہ و ۱۰۔ مجمع الزوائد، اوسط طبرانی

۱۔ بیت المقدس کا ذکر صرف حدیث ۱۵ میں ہے لہٰذا ہر دو دوزوں سے مراد راستے ہیں کیونکہ آگے اسی حدیث  
۱۲ میں ہے کہ ان سات میں سے ہر دوسے پر دو فرشتے ہوں گے، حدیث ۲۰ میں بھی دو دن ہی کا ذکر ہے۔ رینج

نہ دیں گے۔

۳۹۔ لہذا وہ مدینہ طیبہ کے باہر (ظہریہ) امیر میں  
کھاری زمین کے ختم پر اور خندق کے دریا  
ٹھہرے گا۔

۴۰۔ اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔  
۴۱۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں زمین زلزلے آئیں  
گے جو بہر مناق مرد و عورت کو مدینہ سے نکال  
پھینکیں گے۔

۴۲۔ یہ سب منافقین و جہال سے جا ملیں گے  
ور منثور

۴۳۔ عورتیں جہال کی پیروی سب سے پہلے  
کریں گی۔

۴۴۔ غرض مدینہ طیبہ ان سے بالکل پاک ہو  
جائے گا اس لئے اس دن کو یوم نبأت  
کہا جائے گا۔

۴۵۔ جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو فتنہ  
کی حالت میں واپس ہوگا۔ ”فتنہ و جہال“

۴۶۔ فتنہ و جہال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخِ زمانہ  
میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہو ورنہ آئندہ  
ہوگا۔

۴۷۔ اسی لئے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں  
کو اس سے خبردار کرتے رہے۔

۳۱ ابن ماجہ وغیرہ و ۳۲ احمد، الدر المنثور و ۶۵  
ور منثور، معمر و ۳۳ مجمع الزوائد، طبرانی۔

۲ حاکم

۳۱ ابن ماجہ وغیرہ و ۶۵ معمر، در منثور

۳۱ ابن ماجہ وغیرہ و ۳۲ احمد وغیرہ و ۶۵ معمر،  
ور منثور

۳۳ مجمع الزوائد، طبرانی

۳۴ ابن ماجہ

۳۵ مجمع الزوائد، اوسط طبرانی

۳۶ ابن ماجہ وغیرہ و ۳۷ طبرانی، فتح الباری

۳۷ ابن ماجہ وغیرہ و ۳۸ احمد وغیرہ

## حوالہ احادیث

## علامات قیامت بترتیب زمانی

- ۴۸۔ مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کسی اور نبی نے نہیں بتلائیں۔
- ۴۹۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد اُحدانی کا دعویٰ کرے گا۔
- ۵۰۔ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا
- ۵۱۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے پھو جائیں گے
- ۵۲۔ مادرِ ادا اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔
- ۵۳۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے بتائیں کریں گے۔
- ۵۴۔ چنانچہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں تو مجھے تو اپنا رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کر لے گا تو اس کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آکر کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر یہ تیرا رب ہے۔
- ۵۵۔ نیر و جمال کے ساتھ دو فرشتے دو نمبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو اس کی تکذیب لوگوں
- ۳۸۔ طبرانی، فتح الباری
- ۳۹۔ ابن ماجہ وغیرہ و ۳۱۔ حاکم وغیرہ و ۳۲۔ احمد، حاکم، و ۳۳۔ طبرانی، و فتح الباری
- ۳۱۔ احمد، حاکم
- ۵۔ مسلم وغیرہ
- ۳۸۔ طبرانی، و فتح الباری
- ۳۱۔ احمد، حاکم
- ۱۲۔ ابن ماجہ وغیرہ
- ۳۵۔ احمد، و مشکوٰۃ
- ۱۔ قوسین کا مضمون صرف حدیث ۳۲ میں ہے۔

## حوالہ احادیث

## علاماتِ قیامت بترتیب زمانی

کی آزمائش کے لئے اس طرح کریں گے کہ  
سننے والوں کو تصدیق کرتے ہوئے معلوم  
ہوں گے۔

۵۷ احاکم وغیرہ و ۲۸ طبرانی، فتح الباری

۵۶۔ جو شخص اس کی تصدیق کرے گا اور فرہو جائے  
گا اور اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل  
و بے کار ہو جائیں گے اور جو اس کی تکذیب  
کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں  
گے۔

۵۸ مسلم وغیرہ، و ۱۲ ابن ماجہ وغیرہ۔

۵۷۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی  
بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں تباہی  
کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہو رہی نظر  
آئے گی اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین  
نباتات اُگائے گی، ان کے مویشی خوب  
قرہ ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن  
دودھ سے بھر جائیں گے اور جو لوگ  
اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے  
گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں  
گے۔

۲۱ احمد، حاکم

۵۸۔ غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا  
سب لوگ اس وقت مشقت میں پڑیں گے۔

۲۸ الجامع الصغیر للسیوطی، ابوداؤد الطیالسی

و ۱۲ احمد وغیرہ۔

۵۹ اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی  
اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔

## علاماتِ قیامت بترتیبِ زمانی

### حوالہ احادیث

- ۶۰۔ (نہروں اور اذیوں کی صورت میں) اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت
- ۶۱۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے
- ۶۲۔ اور جو شخص وجمال پر سورہ کہف کی ابتدائی (دش) آیات پڑھ دیکو وہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر وجمال اُسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔
- ۶۳۔ وجمال تلوار ریا آرے سے ایک (مومن) نوجوان کے دو ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا، تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔
- ۶۴۔ اور وجمال اس سے پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ”میرا رب اللہ ہے“ اور تو اللہ کا دشمن وجمال ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے وجمال ہونے کا یقین ہے۔
- ۶۵۔ وجمال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کے مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہ دی جائے گی۔
- ۱۲ ابن ماجہ وغیرہ، ۲۵ احمد وغیرہ و ۳۶  
حاکم وغیرہ و ۳۹ ابن ابی شیبہ، ابن عساکر،  
کنز العمال
- ۳۹ ابن ابی شیبہ، ابن عساکر وغیرہما
- ۲۵ مسلم وغیرہ و ۱۲ ابن ماجہ وغیرہ
- ۱۳ ابن ماجہ وغیرہ  
حاکم۔
- ۱۲ ابن ماجہ وغیرہ
- ۳۱ احمد، حاکم



## علامات قیامت بترتیب زمانی

### حوالہ احادیث

۶۶۔ اس کا فتنہ ۴۰ چالیس روز رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کی برابر اور ایک دن ایک ماہ کی برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کی برابر ہوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔

۶۷۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کے تین شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو دو سمندرؤں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا ”حیرہ“ (عراق) کے مقام پر اور تیسرا شام میں، وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو دو سمندروں کے سنگم پر ہے۔

۶۸۔ (شہر کے) لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

۶۹۔ ایک گروہ روہیں رہ جائے گا اور (دجال کی پیروی کرے گا، اور ایک دیہات میں چلا جائے گا۔

۷۰۔ اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اس میں بھی لوگوں کے

۱۔ تو سین کا معنوں صرف حدیث ۱۱ میں اور باقی معنوں ۱۱ اور ۱۲ دونوں حدیثوں میں ہے حضرت ابن مسعود کے اثر حدیث ۱۱ میں ہے کہ تیسرا گروہ ساحل فرات کی طرف نکل جائے گا جو دجال سے جنگ کریگا۔ ابن ابی شیبہ وغیرہ

## علاماتِ قیامت بترتیبِ زمانی

حوالہ احادیث

اسی طرح تین گروہ ہو جائیں گے، اور میرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصہ میں ہوگا۔

۴۱۔ یہاں تک کہ مومنین اردن و بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے۔

۴۲۔ اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر

تک پہنچ جائے گا جو باب لُد پر واقع ہوگا

۴۳۔ اور مسلمان "افیق" نامی گھاٹی کی طرف

سمٹ جائیں گے، یہاں سے وہ اپنے

موتی چرنے کے لئے بھیجیں گے جو سب

کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔

۴۴۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک

پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے۔

۴۵۔ جس کا نام "جبل الدخان" ہے۔

۴۱۔ احمد، حاکم

۱۔ ابن مسعودؓ کی حدیث مرفوعہ میں ہے کہ "شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے ابن ابی

شیبہ اور قتادہ کے اثر حدیث ۳۲۰ میں ہے کہ "شام میں جمع ہو جائیں گے۔" نسیم بن عماد، الحدادی یاد رہے

کہ اصل ملک شام اردن اور بیت المقدس پر بھی مشتمل تھا جیسا کہ حصہ موم کے حواشی میں ہم تفصیل

سے لکھ چکے ہیں لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔

۲۔ نیز ابن مسعودؓ کی حدیث مرفوعہ میں ہے کہ شام کی بستیوں میں جمع ہونے کے بعد مسلمان

ایک دستہ دجال کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجیں گے جس میں ایک شخص جسورے یا چنگیرے گھوڑے

پر سوار ہوگا، یہ پورا دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی زندہ نہ لوٹے گا۔

(ابن ابی شیبہ وغیرہ)

## علامت قیامت بترتیب زمانی بحوالہ احادیث

۷۶۔ اردو جہاں پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔

۷۷۔ یہ محاصرہ سخت ہوگا۔  
 ۷۸۔ جس کے باعث مسلمان سخت مشقت (اور فقر و فاقہ) میں مبتلا ہو جائیں گے۔  
 ۷۹۔ سستی کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانٹ جلا کر کھائیں گے۔

۸۰۔ دجال آخری بار اردن کے علاقہ میں "دیفیق" نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا داویٰ اردن میں موجود ہوگا، وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کرے گا، ایک تہائی کو شکست دے گا، اور صرف ایک تہائی مسلمان باقی بچیں گے۔

۸۱۔ (جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے) اس سرکش سے جنگ کو دنا کہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے، چنانچہ سب لوگ پختہ مہد کر

۱۔ قوسین کا مضمون صرف حدیث ۱۶ و ۱۱۵ میں ہے۔

۲۔ یعنی امام مہدی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے امیر وہی ہوں گے جیسا کہ آگے آیا اور پچھے بھی گذرنا ہے یعنی

## علامات قیامت بترتیب زمانی حوالہ احادیث

لیں گے کہ صبح ہوتے ہی (نماز فجر کے بعد) دجال سے جنگ کریں گے۔

”نزول عیسیٰ علیہ السلام“

۸۲۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی ۶۵ مسعودی وغیرہ

۸۳۔ اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہونگے ۷۷ مسلم

۸۴۔ کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز ۱۱۹ احمد و ۱۱۵ الحدادی، ابو نعیم

سنائی دے گی (کہ تمہارا فریاد رس آپہنچا) لوگ تعجب سے کہیں گے ”یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے“

۸۵۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔

از حدیث راتنا ۱۱۶ (علاوہ حدیث ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۶، تا ۹۱ و ۹۵، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ہیں)۔

۸۶۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوتے ہوں گے۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ“

۸۷۔ آپ مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود ۷۷ مسلم، احمد، حاکم وغیرہم ۹۷ درمنثور،

۱۵ قرین کہ معنون صرف حدیث ۷۱ میں ہے۔

۸۸۔ حضرت کعب اجاز کے اثر (حدیث ۱۱۵) میں ہے کہ ”میں لوگ نظر دوڑائیں گے تو ان کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ نعیم بن حماد الحدادی السیوطی

۸۹۔ کعب اجاز کے اثر (حدیث ۱۱۴) میں ہے کہ ”آپ کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوتے ہوں گے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر۔

## حوالہ احادیث

## علامات قیامت بترتیب زمانی

کے مشابہ ہوں گے۔

ابن جریر

۸۸۔ قد وقامت درمیانہ رنگ سُرخ و سفید۔

۱ ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، احمد، ابن جان،

ابن جریر ۱۵ احمد۔

۸۹۔ اور بال (شانوں تک پھیلے ہوئے) سیدھے

۱ ابو داؤد وغیرہ مع حاشیہ از بخاری و ۱۵

احمد۔

صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔

۹۰۔ سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی

۱۵ مسلم وغیرہ ۱۵ و ۱۰۶ الحدادی، ابو یوسف، اللہ

۱۱۳۳ تاریخ دمشق۔

مانند قطرے ٹپکیں گے یا ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے۔

۶۵ مسموع وغیرہ

۹۱۔ جسم پر ایک زرہ

۱۵ مسلم وغیرہ ۱ ابو داؤد و ۱۵ احمد

۹۲۔ اور ہلکے زرورنگ کے دو کپڑے ہوں

گے۔

۱۰ نیز ابن زید کے اثر (حدیث ۹۵) میں یہ بھی ہے کہ اُس وقت آپ کھولتے کی حرکتیں ہوں گے۔

لقولہ تعالیٰ: "وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهَادِ كَهَيْئَةِ" و مشورہ، ابن جریر۔

۱۱ صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث میں ہے "عینی جَعْدًا صَبْرًا" یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بل

گھنٹکے والے ہیں، اور اکثر احادیث میں ہے کہ سیدھے (سَبِيْطًا) ہوں گے، دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ جہاں سیدھا (سَبِيْطًا) فرمایا وہاں مراد یہ ہے کہ زیادہ

پیچ دار نہ ہوں گے اور جہاں پیچ دار فرمایا اُس سے مراد یہ ہے کہ بالکل سیدھے بھی نہ ہوں گے جس

کا حاصل یہ ہے کہ بال نہ بہت پیچ دار ہوں گے نہ بالکل سیدھے بلکہ کسی قدر گھنٹکے والے ہوں گے (شرح نووی مع

صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۴) ۱۲ روایات و دونوں طرح کی ہیں، تو سین کا مضمون صرف حدیث ۱۵ اور ۱۱ میں ہے

۱۳ کتب اجاز کے اثر (حدیث ۱۱۳) میں یہ بھی ہے کہ وہ دو کپڑے طائم ہوں گے، ایک چادر ہوگی

دوسرا تہ بندتا تاریخ دمشق ابن عساکر۔

## علامات قیامت بترتیب زمانی

حوالہ احادیث

- ۹۳۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانہ کے صالح ترین اٹھ سو مرد اور چار سو عورتوں پر مشتمل ہوگی۔
- ۹۴۔ ان کے استفسار پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے۔
- ۹۵۔ اور وہ جہاں سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔
- ۹۶۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی ہوں گے۔
- ۹۷۔ جن کا ظہور نزول عیسیٰ سے پہلے ہو چکا ہوگا۔
- ۹۸۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منار کے پاس ریابیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔
- ۹۹۔ امام مہدی کے پاس ہوگا اس میں مقام کا نام مذکور نہیں اور کتب جنار کے اثر میں ہے کہ نزول دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس ہوگا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر۔
- ۱۰۰۔ مع حاشیہ و ۱۰۱۔ الحدادی للسیوطی، و اخبار المہدی لابن نعیم و ۱۰۲۔ الحدادی ابو عمر الدانی و ۱۰۳۔ الحدادی۔ ابو نعیم۔
- ۱۰۴۔ نسائی، ابو نعیم، حاکم، کنز العمال و ۱۰۵۔ مشکوٰۃ زین و ۱۰۶۔ الحدادی للسیوطی۔ ابو نعیم۔
- ۱۰۷۔ مسلم وغیرہ مع حاشیہ و ۱۰۸۔ طبرانی، ابن عساکر، حاشیہ صحیح ابن ماجہ، تلمیح ابن عساکر المختارہ و ۱۰۹۔ الحدادی، ابو عمر الدانی و ۱۱۰۔ الحدادی، نعیم بن حماد۔

### ”مقام نزول وقت نزول اور امام مہدی“

- ۱۱۱۔ بیت المقدس کی صراحت صرف حدیث ۱۰۵ میں ہے اور حدیث ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ میں صراحت ہے کہ نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منار کے پاس ہوگا جو سکتا ہے کہ آسمان سے نزول تو دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منار کے پاس ہی ہو مگر اخیر شب میں آپ بیت المقدس کے حضور مسلمانوں کے پاس پہنچ جائیں جہاں امام مہدی بھی ہوں گے دوسری متعدد احادیث سے بھی یہی کتا امید ہوتی ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں اور حدیث ۱۱۱ میں ہے کہ نزول امام مہدی کے پاس ہوگا اس میں مقام کا نام مذکور نہیں اور کتب جنار کے اثر میں ہے کہ نزول دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس ہوگا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر۔

۱۱۲۔ بیت المقدس کی صراحت صرف حدیث ۱۰۵ میں ہے اور حدیث ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ میں صراحت ہے کہ نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منار کے پاس ہوگا جو سکتا ہے کہ آسمان سے نزول تو دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منار کے پاس ہی ہو مگر اخیر شب میں آپ بیت المقدس کے حضور مسلمانوں کے پاس پہنچ جائیں جہاں امام مہدی بھی ہوں گے دوسری متعدد احادیث سے بھی یہی کتا امید ہوتی ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں اور حدیث ۱۱۱ میں ہے کہ نزول امام مہدی کے پاس ہوگا اس میں مقام کا نام مذکور نہیں اور کتب جنار کے اثر میں ہے کہ نزول دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس ہوگا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر۔

## حوالہ اور بیعت

## علامات قیامت بترتیب زمانی

- ۹۹۔ اس وقت امام (مہدی) نماز فجر پڑھانے کے لئے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔
- ۱۰۰۔ اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی
- ۱۰۱۔ امام (مہدی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لئے بلائیں گے مگر وہ انکار کریں گے۔
- ۱۰۲۔ اور فرمائیں گے کہ (یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ) اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔
- ۱۰۳۔ جب امام (مہدی) چھپے بیٹھنے لگیں گے تو آپ (ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر) فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ۔
- ۱۰۴۔ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لئے ہو چکی ہے۔
- ۱۰۵۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے۔
- ۱۰۶۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے چھپے پڑھیں گے۔
- ۱۰۷۔ اور رکوع سے اٹھ کر "سمع اللہ لمن حمدہ" کے بعد یہ جملہ فرمائیں گے۔
- ۱۔ ابن ماجہ، در۱۱۰ الحدادی، ابو عمر والدانی  
در۱۱۵ الحدادی، ابو نعیم
- ۲۔ مسلم در۱۱۰ ابن ماجہ، در۱۱۵ احمد، در۱۱۵ احمد، حاکم در۱۱۰ الحدادی، اخبار المہدی لابن نعیم ودر۱۱۰ الحدادی، سنن ابی عمر والدانی ودر۱۱۰ ابو یعلیٰ ودر۱۱۰ سیوطی۔ ابو عمر والدانی
- ۳۔ مسلم، در۱۱۵ احمد ودر۱۱۰ سیوطی، ابو نعیم ودر۱۱۰ سیوطی، ابو عمر والدانی ودر۱۱۰ ابو یعلیٰ
- ۴۔ ابن ماجہ ودر۱۱۰ احمد، حاکم
- ۵۔ ابن ماجہ در۱۱۰ الحدادی، ابو عمر والدانی ودر۱۱۰ الحدادی، ابو نعیم
- ۶۔ بخاری ودر۱۱۰ مسلم مع حاشیہ در۱۱۰ ابن ماجہ، ودر۱۱۰ احمد ودر۱۱۰ الحدادی، ابو نعیم
- ۷۔ کنز العمال، ابو نعیم ودر۱۱۰ الحدادی، ابو عمر والدانی ودر۱۱۰ الحدادی، نعیم بن حماد ودر۱۱۰ الحدادی، ابن ابی شیبہ۔
- ۸۔ ابن جہان، مجمع الزوائد، شرح صحیح بخاری

”قتل الله الدجال واطهر المؤمنين“

”دجال سے جنگ“

۱۰۸۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰؑ

علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے  
پچھلے دجال ہوگا، اور اس کے ساتھ ستر  
ہزار مسلح یہودی ہوں گے۔

۱۰۹۔ آپ ﷺ کے اشارہ سے فرمائیں گے کہ

میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ  
جاؤ۔

۱۱۰۔ دجال حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس

طرح گلہنے لگے گا جیسے پانی میں نمک  
گھلتا ہے (یا جیسے رنگ اور چربی گھلتی  
ہے)۔

۱۱۱۔ اس وقت جس کافر پر عیسیٰؑ علیہ السلام کے

سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا اور جہاں  
تک آپ کی نظر جائیگی وہیں تک سانس  
پہنچے گا۔

۱۱۲۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر

پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا  
رعب چھائے گا کہ ڈیل ڈول والا یہودی  
تلاز تک نہ اٹھا سکے گا۔



## حوالہ احادیث

## علاماتِ قیامت بہ ترتیب زمانی

۱۱۳ حاکم، الدر المنثور

۱۱۳۔ غرض جنگ ہوگی۔

۱۱۴ ابن ماجہ

۱۱۳۔ اور وہ جال بھاگ کھڑا ہوگا

”قتل و جال اور مسلمانوں کی فتح“

۱۱۵ مسلم وغیرہ و احمد، حاکم وغیرہم

۱۱۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب

۱۱۶ احمد، حاکم

کریں گے۔

۱۱۷ ابن ماجہ

۱۱۶۔ اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب میرے

لئے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں

سکتا۔

۱۱۸ مسلم و احمد، احمد

۱۱۷۔ اس وقت آپ کے پاس دو نرم تلواریں

اور ایک حربہ ہوگا۔

۱۱۹ ابن ماجہ و ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۱۸۔ جس سے آپ وہ جال کو رہا بگڈ پر قتل

۱۲۰ احمد، ابن ماجہ، حاکم، ابن ماجہ

کر دیں گے۔

۱۲۱ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۲ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۳ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۴ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۵ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۶ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۷ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۸ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۲۹ ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ،

۱۱۹۔ پاس ہی افریق نامی گھاتی ہوگی۔

۱۲۰ ابن ابی شیبہ۔

۱۔ فلسطین کا ایک مقام ہے جس کی تمیین مستند احادیث مرفوعہ میں کی گئی ہے یہ مقام آج کل یروشلم

کے قبضہ میں ہے اور یہاں نام نہاد اسرائیلی حکومت کا ایک ریپورٹ بھی ہے۔ رفیع



- آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی  
خوشخبری دے کر دلاسا دے سلی دیں گے
- ۱۲۹۔ پھر لوگ اپنے وطن واپس ہو جائیں  
۱۳۰۔ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت  
و صحبت میں رہے گی۔
- ۱۳۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فتح الروحاء  
میں تشریف لے جائیں گے، وہاں سے  
حج یا عمرہ (یا دونوں) کریں گے۔
- ۱۳۲۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے  
اور آپ ان کے سلام کا جواب دیں گے۔
- ”یا جوج ماجوج“
- ۱۳۳۔ لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں  
گے کہ یا جوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ  
جائے گی۔
- ۱۳۴۔ اور یا جوج ماجوج نکل پڑیں گے۔
- ۱۳۵۔ مسلم وغیرہ، وہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی،  
ابن ماجہ و آیت قرآنیہ بر حاشیہ حدیث ۱۳۵ و ۱۳۶  
طبرانی، حاکم و ۱۳۷ حاکم، ابن عساکر، وہ ابن  
ابی شیبہ، وہ مسلم وغیرہ۔

۱۳۵۔ اس کے اور اگلے واقعے کے بارے میں صراحت نہیں ملی کہ یہ یا جوج ماجوج کے واقعے سے پہلے ہوں  
گے یا بعد۔ رفیع نے یہ لفظ صرف حدیث ۱۳۵ میں ہے جو مرفوع ہے۔

## حوالہ احادیث

## علامات قیامت بترتیب زمانی

- ۱۳۵۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔
- ۱۳۶۔ یاجوج و ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلے ہوئے معلوم ہوں گے۔
- ۱۳۷۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے زمین میں (جہاں پہنچیں گے) تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔
- ۱۳۸۔ ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ (طبریہ) پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی۔  
”یہاں کبھی پانی کا اثر تھا“
- ۱۳۹۔ بالآخر یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے، آؤ اب آسمانوں سے جنگ کریں۔
- ۱۴۰۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں غذا کی
- ۵ مسلم وغیرہ
- ۵ مسلم وغیرہ ۱۳۱ احمد
- ۱۳۷ احمد وغیرہ ۵۵ ابن ابی شیبہ وغیرہ ۱۳۸ حاکم، الحادی۔
- ۵ مسلم وغیرہ ۳۶ حاکم، ابن عساکر
- ۵ مسلم وغیرہ
- ۱۴۰۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں غذا کی
- ۱۴۰۔ حسین کا معنون صرف ۱۳۷ میں ہے۔

سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک  
بیل کا سر سودینار سے بہتر معلوم ہوگا۔

### ”یا جوج ماجوج کی ہلاکت“

- ۱۴۱۔ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
یا جوج ماجوج کے لئے بد دعا فرمائیں گے  
۵ مسلم وغیرہ ۱۴۱ احمد
- ۱۴۲۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں (اور کانوں)  
میں ایک کیر طرار اور حلق میں ایک پھوڑا  
نکال دے گا۔  
۵ مسلم وغیرہ
- ۱۴۳۔ جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے۔  
۱۴۴۔ اور وہ سب (وقفہ) ہلاک ہو جائیں گے۔  
۵ مسلم وغیرہ، ۱۴۳ احمد و ۳۶ حاکم، ابن عساکر  
و ۱۰۸ حاکم، السیوطی فی الحدیث
- ۱۴۵۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے  
مگر پوری زمین یا جوج ماجوج کی لاشوں  
کی دچکنا ہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی  
۱۴۶۔ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔  
۵ مسلم وغیرہ ۱۴۵ احمد و ۱۰۸ حاکم وغیرہ  
فی الحدیث
- ۱۴۷۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام (اور ان کے  
ساتھی) دعا کریں گے۔
- ۱۴۸۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں  
والے (بڑے بڑے) پرندے بھیج دیگا  
جو ان کی لاشیں اٹھا کر (سمندر میں اور)

## حوالہ احادیث

## علامات قیامت بترتیب زمانی

جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔

۵ مسلم وغیرہ و ۱۳ احمد

۱۴۹۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برساے گا جو

زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دیگی

۵ مسلم وغیرہ

۱۵۰۔ اور زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکت

سے بھر جائے گی

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات“

۱۔ بخاری، مسلم، ۳۲ احمد، و ۳ طبرانی، کنز العمال

۱۵۱۔ دنیا میں آپ کا نزول (وقیام) امام عادل

اور حاکم منصف کی حیثیت سے ہوگا

۶۷ و منشور، طبرانی

۱۵۲۔ اور اس اُمت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔

۳۸ طبرانی وغیرہ و ۵۵ الاشاعت ابو الشیخ ابن

۱۵۳۔ چنانچہ آپ قرآن و حدیث و اور اسلامی

شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں

حیان -

کو بھی اس پر چلائیں گے۔

۳۷ احمد، و ۲۲ ابن جان، بزاز مع حاشیہ

۱۵۴۔ اور (نمازوں میں) لوگوں کی امامت کریں گے۔

۱۸ کنز العمال، و منشور و ابن ابی شیبہ، حاکم،

۱۵۵۔ آپ کا نزول اس اُمت کے آخری دور

حکیم ترمذی، و منشور، و ۲۷ نسائی، تاریخ حاکم

میں ہوگا

ابو یوسف، ابن عساکر وغیرہم و ۶۲ کنز العمال، حلیہ ابی نعیم

و ۶۷ و منشور، ابن جریر، و ۶۶ مشکوٰۃ، رزین۔

۱۔ اس کی صراحت صرف حدیث ۵۴ میں ہے، البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اثر (حدیث ۷) میں ہے

صراحت بھی ہے کہ آپ نمازیں اور جمعہ پڑھایا کریں گے۔ ابن عساکر، و کنز العمال اور کعب اجارہ

کے اثر حدیث ۵۴ میں تفصیل بھی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کی نماز تو امام ہمدانی

پڑھائیں گے اور بعد میں امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کریں گے۔ نسیم بن حاد الحدادی

## حوالہ احادیث

## علامات قیامت بترتیب زمانی

- ۱۵۶۔ اور نزول کے بعد دنیا میں چالیس سال قیام کریں گے۔
- ۱۵۷۔ ابو داؤد، ورمشور، ۳۳ احمد ۵۳، قرآن الصعود ۵۵، الاشارة
- ۱۵۸۔ اسلام کے دورِ اول کے بعد یہ اس امت کا بہترین دور ہوگا۔
- ۱۵۹۔ آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جنہم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔
- ۱۶۰۔ اور جو لوگ اپنا دین بچانے کے لئے آپ سے جا ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔
- ۱۶۱۔ اس زمانہ میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام ادیان و مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہے گا۔
- ۱۶۲۔ جہاد و موقوف ہو جائے گا۔
- ۱۶۳۔ اور نہ خراج وصول کیا جائے گا۔
- ۱۶۴۔ نہ جزیہ
- ۱۶۵۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام کریں گے کہ مال کوئی قبول نہ کرے گا۔
- ۱۶۶۔ زکوٰۃ و صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا۔
- ۱۶۷۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۶۸۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۶۹۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۰۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۱۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۲۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۳۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۴۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۵۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۶۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۷۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۸۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۷۹۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد
- ۱۸۰۔ ابو داؤد، ورمشور، ۱۳ ابن ماجہ، ۱۵ احمد، ورمشور، ۸۵ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ۸۵ ورمشور، ابن ابی حاتم، ۱۶ بخاری، مسلم، ۱۲ احمد

۱۔ کیونکہ کوئی کافر ہی باقی نہ ہوگا جس سے جہاد کیا جائے یا جزیہ و خراج وصول کیا جائے۔

۲۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر حدیث ۱۵ میں ہے کہ لوگ ان کی بدولت دوسروں سے مستغنی ہو جائیں گے، ابن عساکر، کنز العمال۔

## علامات قیامت ترتیب زمانی

### حوالہ احادیث

- ۱۶۷۔ اور لوگ ایک سجدہ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ پسند کریں گے۔  
 ۱۶۸۔ پوری دنیا امن و امان سے بھر جائیگی۔  
 ۱۶۹۔ سات سال تک کسی بھی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی۔  
 ۱۷۰۔ سب کے دلوں سے کھل کرینہ اور بغض و حسد نکل جائے گا۔  
 ۱۷۱۔ چالیس سال تک نہ کوئی مر گیا نہ بیمار ہوگا۔  
 ۱۷۲۔ ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا۔  
 ۱۷۳۔ سانپ اور بچھو بھی کسی ایذا نہ دیں گے۔  
 ۱۷۴۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔  
 ۱۷۵۔ یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ دیکھا تو وہ گزند نہ پہنچائے گا۔  
 ۱۷۶۔ زندہ سے بھی کسی کو کچھ نہ کہیں گے۔  
 ۱۷۷۔ آدمی خیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا۔

۱۔ بخاری، مسلم

۵۔ مسلم وغیرہ

۱۳۔ ابن ماجہ وغیرہ و ۱۵۔ احمد و ۱۷۔ طبرانی وغیرہ

۱۸۔ مسلم، احمد، کنز العمال، درمنثور۔

۱۷۔ ۱۸۔ مسلم وغیرہ و ۱۳۔ ابن ماجہ وغیرہ و ۱۷۔

کنز العمال، ابو نعیم۔

۱۷۔ احاکم، سیوطی فی الحاوی

۱۳۔ ابن ماجہ وغیرہ

۱۳۔ ابن ماجہ وغیرہ و ۱۷۔ کنز العمال، ابو نعیم،

و ۱۷۔ احاکم، السیوطی

۱۵۔ احمد۔

۱۲۔ ابن ماجہ وغیرہ

۱۳۔ ابن ماجہ وغیرہ و ۱۷۔ احاکم، السیوطی فی الحاوی۔

۱۷۔ کنز العمال، ابو نعیم۔

۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اثر حدیث سے، میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال اشیاء کی فہرست لکھ کر

(ابن عباس رضی اللہ عنہما) نے ان کے زمانہ میں حلال اشیاء کثرت سے پیدا ہوں گی۔ رفیع۔



## علاماتِ قیامت بترتیبِ زمانی

### حوالہ احادیث

- ۱۷۸۔ حسی کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گا۔  
۱۳ ابن ماجہ وغیرہ
- ۱۷۹۔ اونٹ شیروں کے ساتھ چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔  
۱۵ احمد
- ۱۸۰۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لئے رہتا ہے۔  
۱۳ ابن ماجہ
- ۱۸۱۔ زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو اُگ آئے گا۔  
۱۵ کنز العمال، ابو نعیم
- ۱۸۲۔ بل چلائے بغیر بھی ایک مَد سے سات سو مَد گندم پیدا ہوگا۔  
۱۰ احاکم، السیوطی فی الحاوی
- ۱۸۳۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے پھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔  
۵ مسلم وغیرہ
- ۱۸۴۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو، ایک گائے پورے قبیلہ کو اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔  
۵ مسلم وغیرہ
- ۱۸۵۔ مَرضِ نَزْدِ عِیْسَى کے بعد زندگی بڑی  
۱۵ کنز العمال، ابو نعیم

خوش گوار ہوگی

”عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور اولاد“

۱۸۶۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نزدول کے بعد) ۵۵ مشکوٰۃ، ابن الجوزی، کنز العمال، وفتح الباری

دنیا میں نکاح فرمائیں گے۔

۱۸۷۔ اور آپ کے اودا و بھی ہوگی ۵۵ مشکوٰۃ، ابن الجوزی، کنز العمال وفتح الباری

لمقریزی۔

۱۸۸۔ (نکاح کے بعد) دنیا میں آپ کا قیام  
تیس سال رہے گا۔

”آپ کی وفات اور جانشین“

۱۸۹۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات  
ہو جائے گی۔۱۵۵ احمد و ۵۵ اشاعہ لمقریزی  
۵۵ ابن جریر و منشور، ۶۷ حاکم تارخ و منشور، ابنجریر جو الہ آیت قرآنہ و ۸۴ ابن جریر و ۵۵ ابن  
ابی حاتم، و منشور

۱۹۰۔ اور مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ

کو دفن کریں گے

۱۹۱۔ اس کی تصریح صرف حدیث ۵۵ میں ہے کہ حدیث موقوفہ ۱۰۱ میں ہے کہ یہ نکاح حضرت شعیب کی قوم یعنی

قبیلہ بھنڈام میں ہوگا یہ حدیث علامہ مقریزی نے ”الخطط“ میں بغیر سند کے ذکر کی ہے کہ حدیث ہذا میں اس کی پوری صورت

نہیں البتہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ انیس سال کی مدت نکاح کے بعد ہے نیز حدیث ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳

۵۵ بھی اسی کی مؤید ہیں ۱۲ ربیع ۱۱۵۵ اور حضرت عبدالعزیز بن سلام کی حدیث موقوفہ ۲۶ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا ترمذی۔ اور عبدالعزیز بن سلام ہی کی حدیث موقوفہ ۲۵ میں یہ

بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا پس

عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی، رواہ البخاری فی تاریخہ والطبرانی کما فی الدر المنثور۔

## علامات قیامت بترتیب زمانی

### حوالہ احادیث

۱۹۱۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقعد ہوگا، خلیفہ مقرر کریں گے۔

۱۹۲۔ پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ۵۵ اشاعت للبرزنجی

### ”متفرق علامات قیامت“

۱۹۳۔ اور آپ کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچھ دے گی تو قیامت تک اس پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی یہ

۳۹ ابن ابی شیبہ، ابن عساکر، کنز العمال ۲۲۷  
نعیم بن حماد، کنز العمال

۱۹۴۔ زمین میں دھنس جانے کے تین واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔

۷۸ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ و ۲۳۷ بلطنی  
حاکم، المن مردویہ، کنز العمال

لے ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ دوسری قسم کی سواریوں کا رواج ہوگا اور گھوڑے کی سواری بالکل متروک ہو جائے گی، یا یہ مراد ہو کہ جہاد کے لئے سواری نہ ہوگی کیونکہ جہاد قیامت تک منقطع رہے گا، یا پھر یہاں قیامت سے قیامت کی کوئی بڑی علامت مثلاً آفتاب کا مغرب سے طلوع یا اداۃ الارض یا دخان یا سب مؤمنین کی موت مراد ہوگی کہ احادیث میں بعض علامات قیامت کو بھی قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے جس کی تفصیل ہم نے فہرست سے پہلے اسباب تعارض کے ذیل میں ذکر کی ہے یہ تو جہات اس لئے ضروری ہیں کہ دوسری روایات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم (ایک سو بیس) ۱۲۰ سال ضرور لگیں گے مثلاً حضرت عبدالقادر بن عمرو بن العاصی کے اثر حدیث ۵۴۱ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سو بیس برس تک عرب لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے اداۃ بلطنی اور فتح ابدا دی میں تو حضرت عمرو بن العاصی کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں ایک سو بیس سال تک رہیں گے پھر قیامت آئے گی، دیکھئے عربی ماہیۃ التفسیر ج ۱۰ صفحہ ۲۳۱ طبع حلب۔

## علاماتِ قیامت بترتیبِ زمانی

### حوالہ احادیث

#### ”دھواں“

۱۹۵۔ ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔  
 ۲۰ مسلم، ابو داؤد وغیرہ جامع آیت قرآنیہ بر حاشیہ  
 ۲۱ طبرانی حاکم۔

۱۹۶۔ اس سے مؤمنین کو تو زکامِ سامعوس ہوگا مگر کفار کے سر ایسے ہوجائیں گے جیسے انہیں آگ پر پھون دیا گیا ہو۔  
 ۲۲ حاشیہ حدیث ۲۰ بحوالہ تفسیر ابن جریر مرفوعاً  
 ۲۳ موقوفاً

#### ”آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا“

۱۹۷۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک روز آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔  
 ۲۴ مسلم وغیرہ ۲۵ طبرانی، حاکم، ابن مردیہ  
 ۲۶ حاکم السیوطی فی المحادی

۱۹۸۔ جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا اور گنہگار مسلمانوں کی تو یہ بھی اس وقت قبول نہ ہوگی۔  
 ۲۷ حاشیہ حدیث ۲۵ بحوالہ صحیح بخاری و آیت قرآنیہ

#### ”دابۃ الارض“

۱۹۹۔ پھر ایک جانور زمین سے نکلے گا۔  
 ۲۰۰۔ جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔  
 ۲۱ مسلم وغیرہ ۲۲ طبرانی، حاکم، ابن مردیہ  
 ۲۳ آیت قرآنیہ بر حاشیہ حدیث ۲۵

#### ”یمن کی آگ“

۲۰۱۔ پھر ایک آگ یمن (عدن کی گرائی) سے نکلے گی جو لوگوں کو محشرِ رشام کی طرف بانک کر لی جائے گی۔  
 ۲۲ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ بر حاشیہ  
 ۲۳ طبرانی، حاکم، ابن مردیہ، ۲۴ تفسیر ابن جریر، درمنثور

## علامات قیامت بترتیب زمانی

حوالہ احادیث

- ۲۰۲۔ اور سب مؤمنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔  
 حاشیہ بر حدیث ۵ بجوالہ احمد، نسائی، ابوداؤد، ترمذی، حاکم۔
- ۲۰۳۔ مُقعد کی موت کے بعد تیس سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے اٹھایا جائے گا۔  
 ۵۵ الاشاعرة
- ۲۰۴۔ پہاڑ اپنے مرکبوں سے ہٹ جائیں گے اس کے بعد قبض ارواح ہوگا۔  
 ۱۷ حاکم

### ” مؤمنین کی موت اور قیامت “

- ۲۰۵۔ ایک خوش گوار (م) ہو آئے گی جو تمام مؤمنین کی روہیں قبض کر لے گی، اور کوئی مؤمن دنیا میں باقی نہ رہے گا۔  
 ۵ مسلم وغیرہ ۱۱۶ الحدادی للسیوطی، نسیم بن حماد۔
- ۲۰۶۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے۔  
 ۵ مسلم وغیرہ
- ۲۰۷۔ اور گدھوں کی طرح جماع کیا کریں گے۔  
 ۵ مسلم وغیرہ
- ۲۰۸۔ پہاڑ دُھن دیئے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس گابھن کی طرح ہوگا جس کے مالک ہر وقت اس انتظار میں ہوں کہ دن رات میں نہ معلوم کب

۱۷ یہ لفظ صرف حدیث ۵ میں ہے لہٰذا کعب اجار کے اثر حدیث ۱۱۶ میں ہے کہ یہ لوگ نہ کسی دین کو جانتے ہوں گے نہ سنت کو مؤمنین کی موت کے بعد یہ لوگ تیس سال تک رہیں گے انہی پر قیامت آئے گی نسیم بن حماد الحدادی ۱۷  
 ۱۸ یعنی حکم کھٹا، حدیث ۱۱۶ میں جو کعب اجار پر موقوف ہے اس کی صراحت ہے۔

پچھ جن دے۔

۲۰۹۔ بالآخر اُنہی بدترین لوگوں پر قیامت  
آجائے گی۔

قیامت کس طرح آئے گی اس کی ہولناک تفصیلات قرآن کریم اور احادیثِ نبویہ  
میں مختلف عنوانات کے ساتھ بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں مگر حصہ دوم کی احادیث  
میں وہ تفصیلات نہیں ہیں۔ اس لئے ہم اس فہرست کو یہیں ختم کرتے ہیں، و آخر  
دَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَفْضَلِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ  
اَجْمَعِينَ وَنَسْأَلُ اللّٰهَ شِفَاعَتَهُ يَوْمَ الدِّينِ

کتبہ محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

خادم طلبہ و دارالافتاء دارالعلوم کراچی

۲۰ صفر النظر ۱۳۹۳ھ

۵۔ مسلم کی ایک اور حدیث صحیح میں ہے « لا تقوم الساعة على احد يقول الله  
الله ص ۸۳ ج ۱، مسلم ہی کی ایک اور حدیث مرفوع صحیح میں ہے لا تقوم الساعة الا  
على عشر ارب الناس ص ۲۰۶ ج ۲۔

کتبہ محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

تو میں ماؤں کی گود میں پلتی ہیں ایک ناقابل انکار حقیقت  
ایک عورت کو کین اوصاف کا حامل ہونا چاہیے

# تحفہ خواتین

المعروف بہ

خواتین اسلام سے آنحضرت کی باتیں

تالیف: حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم



چند خصوصیات

- عورتوں کے مسائل سے متعلق تقریباً دو سو احادیث نبوی کی تشریح۔
- انتخاب احادیث میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو روایت کرنے والی صحابی خواتین ہیں۔
- تشریح احادیث کے ضمن میں دورِ حاضر کے مسلم معاشرہ پر نقد و تبصرہ۔
- موجودہ مسلم معاشرہ کا اسلام کے عہدِ اول سے موازنہ اور خرابی کے اسباب کی نشان دہی۔
- بلند پایہ مضامین، دلنشین اندازِ تحریر، سلیس اور آسان زبان۔

ت

میں زندگی کے ہر مرحلے میں رہنا خواتین اسلام کے لئے  
بیش بہا تحفہ۔

سفید آفسٹ  
کاغذ بہترین  
طباعیت  
عمدہ کتابت

ناشر: مکتبہ دارالعلوم دہراچھی ۱۳

حضرت مولانا محمد عاشق الہی مدظلہ کی کتاب

# امت مسلمہ کی برائیاں

اسلامی اوصاف سے متصف  
نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ — حضرت زینب بنت جحشؓ — حضرت زینب بنت حوزیمہؓ

حضرت عائشہؓ — حضرت حفصہؓ — حضرت ام سلمہؓ

حضرت اوجیبہؓ — حضرت سوردہ بنت امویہؓ — حضرت خوررہ بنت زرارہؓ

حضرت سہیلہ بنت حبیبیہؓ — حضرت تیمور بنت زرارہؓ

کی پاکیزہ زندگیوں کے  
حالات پیش کرتی ہے۔

جو غم گسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سب سے  
پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے ایمان افروز حالات اور  
حضرت عائشہ صدیقہ کی علمی اور فقہی خدمات اور حضور اقدس  
صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات جاننے کے لئے  
بے نظیر کتاب ہے۔

مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۴